

# ڪاناش

۸

۱۳۶۵

فصلنامہ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - اسلام آباد

﴿ مرغوبترین موضوعات حکیم سنانی غزنوی و پیرایه های متنوع  
اظهار آن ﴾

﴿ بررسی مختصر پیشرفت زبان فارسی در بنگال ﴾

﴿ سنت ها و جشن های زاپن و مقایسه آنها با اعیاد ایرانی ﴾

﴿ اشعار ﴾

﴿ بیامِ مشرق — اقبال کا فارسی دیوان ﴾

﴿ آنھوں صدی ہجری میں ایران اور پندوستان میں ابن عربی کے ﴾

﴿ افکار بر رد عمل ﴾

﴿ کتابوں بر نقد و نظر ﴾

﴿ اجتیاجات و استدراکات ﴾

﴿ وفیات ﴾



## قابل توجه نویسنده‌گان و خوانندگان دانش

- \* مجله سه ماهه "دانش" مشتمل بر مقالاتی پیرامون زبان و ادب فارسی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و شبه قاره می باشد.
- \* بخشی از مجله به مقالات فارسی و بخش دیگر به مقالات اردو اخصاص می یابد.
- \* مقالات ارسالی جهت "دانش" نباید قیلاً منتشر شده باشند.
- \* به نویسنده‌گانی که مقاله آنها جهت درج در "دانش" انتخاب شود . حق التحریر مناسب پرداخت می شود . "دانش" می تواند جهت همکاران خود در خارج پاکستان کتب و مجلات مورد نیاز را تهیه و ارسال نماید.
- \* مقاله ها باید تائب شده باشند . پاورقی ها و توضیحات و فهرست منابع در پایان مقاله نوشته شود.
- \* "دانش" کتابهای را در زمینه های زبان و ادب فارسی و فرهنگ اسلامی معرف می کند . جهت معرف کتاب دو نسخه از آن به دفتر "دانش" ارسال شود.
- \* هر گونه پیشنهاد و راهنمایی خود را به آدرس ذیل جهت "دانش" ارسال فرمائید.

مدیر مستول دانش

رابزی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  
خانه ۲۵ - کوچه ۲۷ - ایف ۶ - اسلام آباد - پاکستان

# ڪاڻش

۸

زمستان

۱۳۶۵ هـ ش

فصلنامه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - اسلام آباد

مدیر مسئول : رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مجله : سید عارف نوشاهی

مشاور افتخاری : دکتر سید علی رضا نقوی


پخش اردو

پیامِ مشرق - ماقبل کا خارسی دیوان

پس پختن شاہین

الیوین ہدیٰ ہجھی میں ایوان اور بندوستان میں لین ٹھیں گے

افکار پر رد عمل



علت اور سیاست - ملکیت ایک ایسا پیغام رہ گئی کہ ایک ملک کا ایسا پیغام رہ گیا کہ

ملک آنکھا - ۷۲ ستمبر - ۷۲ عین ۲ - ۵۲ نانہ

۳۰ ۷۰۷۸ - ۷۳ ۰۰۷۸

## احتجاجات و استدراكات

١٥٨

رئيس نهائى - وحيد اشرف - ط . ع . ق . هروى - مدير مركز تحقیقات فارسی ایران و  
پاکستان - الیاس عشقی - میان محمد سعید - خسر وی - ڈاکٹر ظہور الدین احمد

## وفیات

١٨٧

ڈاکٹر سید عبدالله - حافظ محمد یوسف سدیدی - مولانا محمد اسرائیل - حسین  
رسنگر رشتر خدیو چم .

روشنہ رحلہ دایرہ ریڈیو ایڈیشن رائٹنگ پرستی تھے نہیں جو تحریک ہے  
تھا آنکھا

پشاور پلے مدد نہیں تھے

الائمنیہ رسنگر نہیں تھے پستی پختگی رسنگر  
پشاور پلے مدد نہیں تھے

روزا بیویا علیہ السلام آنسو لقہ نہیں رحلہ نہیں تھے لہ تھے  
دان سینی پٹھانہ تھے

لختا

٧٦

والقدیریہ - علیت ریڈیو نہیں - روایت ریڈیو - پرانے ریڈیوں کیا رائے مدد  
عیا رشتر

نائیہ رسنگر لکھتا ہے - نہیں تھے - نہیں  
رسنگر رشتر رسنگر

٧٧

لکھتا ہے نیما رسنگر نہیں تھے نیما رسنگر نہیں تھے نہیں تھے نہیں  
لکھتا ہے نیما رسنگر

لکھتا ہے نیما رسنگر نہیں تھے نہیں تھے  
لکھتا ہے نیما رسنگر نہیں تھے نہیں تھے

لکھتا ہے نیما رسنگر نہیں تھے نہیں تھے  
لکھتا ہے نیما رسنگر نہیں تھے نہیں تھے

دکتر محمد سلیم اختر \*

## مرغوبترین موضوعات حکیم سنایی غزنوی

### و پیرایه های متنوع اظهار آن

بس که شنیدی صفت روم و چین

خیز و یا ملک سنایی به بین

تصوف و عرفان و زهدیات از اجزای لا یتجزی ادبیات متعالی  
 زبان شیرین فارسی است و سنایی از جمله پیش گامان و مخترعان  
 و مبتکران طراز اول این نوع سخن می باشد . قدرت بوغ و  
 توانایی اندیشه اش را همین، بس که از یک طرف شعرای متصرف  
 چیره دستی مثل شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری و مولانا  
 جلال الدین محمد بلخی رومی دوشادوشش گام بر میدارند و اعتراف  
 به عظمتش را بر خود واجب میدانند ، و مبدعانی قدرتمند چون  
 استاد سخن سعدی و خواجه شیراز که هر کدامشان بحق میتوان  
 گفت واسطه العقد ادبیات پرمایه زبان فارسی است ، عصارة نابی از  
 رگ ابداع و ابتکار آن حکیم در کشیده آنرا در کلیات و دیوان خود  
 بصورت اندرز و موعظت گنجانیده اند ، از دیگر سوی سرایندگانی  
 ورزیده و هنرمند مانند ملک الشعرای بهار و غالب نام آور دهلوی و

\* زاده: ۵ دسامبر ۱۹۴۶م در امریتر . سریرست تحقیقاتی مرکز ملی پژوهش تاریخ و فرهنگ اسلام آباد .

تصویح: ۱- نذکرة مجمع الشعراي جهانگير شاهي از فاطمي . ۲- رسالة توريه سلطانيه از عبدالحق  
 محدث دهلوی . ۳- كلمات الصادقين از محمد صادق كشمیري .

اقبال فیلسوف و اندیشمند لاہوری برای رفع نیازهای اظهار و بیان  
روی بسوی سبک ساده و شیوهٔ شیوای سنائی می‌آورند و از جرقه  
های تابناک وی اکتساب انوار می‌کنند. بهار، زندان نامه،<sup>\*</sup> اش را  
در بحر بلخ نامه<sup>\*</sup> به سلیقهٔ سنائی می‌سراید و اقبال جاوید نامه  
اش را به اسلوب سیر العباد الی المعاد به سلک نظم در می‌  
کشد و گهگاهی غالب و اقبال لغات و تغییرات، وحنی مصر اعهانی  
از استاد غزینین را در گفته های اردو زبان خود با چنان چابکدستی  
از فارسی به اردو برگردانده بکار می‌بندند که خواننده به حیرت و  
استعجاب فرو می‌رود. یکی دیگر از چهره های درخشان ادبیات اردو  
که در دورهٔ اخیر سنائی وی را سخت تحت تأثیر فرار داده و لحن وی در  
نکوهش اوضاع روزگار و بازگوئی نابسامانیهای سیاسی و اخلاقی  
هم میهناش همان تندي و پرش آن شوریدهٔ غزنه را داراست، مولانا  
الطا فحسین مخلص به حالی، نویسندهٔ آثار جاویدانی همانند  
یادگار غالب و حیات جاوید و حیات سعدی و مقدمهٔ شعر و شاعری  
و سرایندهٔ متنوی مد و جزر اسلام معروف به مسدس حالی از پیش  
كسوتان شیوهٔ تازه در سرودن منظومه های اصلاحی و شاگرد بنام  
غالب و پیشو و ممتاز اقبال میباشد که اقبال ارادتش را به وی چنین  
برملا ساخته است:

طوف مرقد حالی سزد ارباب معنی را  
نوای او بجانها افکند شوری که می دام<sup>\*</sup>  
بیا تا فقر و شاهی در حضور او بهم سازم

تو بر خاکش گهر افshan و من برگ گل افshan<sup>\*</sup>  
تبع در این زمینه بخصوص و بررسی در محتویات دواوین و

\* - باقیات اقبال مرتبه سید عبدالواحد معینی، چاپ سوم، لاہور، ۱۹۸۸ ص ۲۴۶

مقایسه سخنان شعرانی سمبرده با اشعار سنائی هر یک فرصت بیشتر و مقال جدایگانه ای را میخواهد . فعلاً آنچه را در سطور ذیل ملاحظه میفرمایید معرفی گونه ایست از جمله مطالب و موضوعات و مضامینی که سنائی در سرتا سر آثارش توجه خواننده را با آنها میکشاند و بمنظور گریز از یکنواختی یک مطلب را در چندین قالب میریزد و فرا روی علاقمندانش می نهد . غیر از توحید و ثناء خداوندی و تذکار قرآن و ذکر احادیث و تکرار گفته های مشایخ که در جای جای آثارش مشاهده میگردد ، موضوعات زیر از همه بیشتر مورد تقد و عنایت آن حکیم بوده است .

#### نعمت و منقبت :

توجه به نعمت حضرت پیغمبر (ص) و مناقب صحابه و مدح و ستایش ایمه اطهار (ع) از جمله خصوصیات بارز شعر سنائی است . در باب سوم حدیقة الحقيقة که به نعمت آنحضرت (ص) و مدح اصحاب وی اختصاص دارد وی در پیرامون جوانب مختلف منصب و مقام نبوت نیز اظهار عقیده میکند و مطالب گونا گونی دایر بر تفضیل و ترجیح آنحضرت (ص) بر سایر انبیاء و اهمیت و ضرورت اتباع وی و آنکه وی رحمة للعلمین بوده است ، نیز ارائه میدهد . در این مباحث تکیه اش بیشتر بر قرآن و قصص قرآن و احادیث و اخبار پیغمبر (ص) بوده است .

در دیوان سنائی نیز نعمتهاي متعددی دیده می شود . تردیدی نیست که مضامین این نوع اشعار بکرات تکرار شده است ولی بازهم نه تنها خواننده را خسته نمی کند بلکه هر بار سوز و حال تازه ای نیز می بخشد . در میان مشتوبهای حکیم سنائی در مثنوی „سنائی آباد، این چند بیت نعمت حضرت پیغمبر (ص) آمده است :

„والضحى“ رنگ روی چون گل او  
مشک „الليل“ بوی سنبل او  
ترک تاز سر سپهر بлагع  
تنگ چشعش ز عالم „ما زاغ“  
نور انجم ز روی خرم او  
همه عالم طفیل مقدم او  
سر انگشت لطف دُرّ یتیم  
ماه را میزدی میان دو نیم (۱)

### عظمت انسان :

سنایی انسان را برگزیده حق و مقصود کار دو جهان  
می شناسد و این موضوع را در آثارش نیز جای جای می پروراند تا  
خواننده متوجه این مقام و منزلت خود بشود، از سر هوا و هوس  
پر خیزد و خود را اهل و شایسته این اعتقاد ثابت کند. در حدیقه گوید  
منت کرد گاز هادی بین  
کادمی را زجمله کرد گزین (۲)

سر این چیست؟ خود تو میدانی  
زانکه مقصود کار دو جهانی (۳)  
همه مقصود آفرینش اوست  
اهل تکلیف و عقل و بینش اوست (۴)

در میان مشنویها در مشنوی طریق التحقیق سنایی توجه خاصی  
بدهیں موضوع مبدول داشته است:

خالق خلق و ایزد بیچون  
فاعل کار گاه „کُن فیکون“

هر چه آورد از عدم وجود  
از وجود همه توئی مقصود  
خویشن را نخست نیک بدان  
تخته آفرینشت بر خوان  
در نگر تاکه آفرید ترا  
از برای چه برگزید ترا  
خاک بودی ترا مکرم کرد  
ذان پست جلوه دو عالم کرد  
از همه مهتر آفرید ترا  
هر چه هست از همه گزید ترا  
در نظر از همه لطیف تری  
بصفت از همه شریف تری  
خوبتر از تو نقشیند ازل  
هیچ نقشی نبست در اول  
قدرتیش بهترین صفت بتو داد  
شرف نور معرفت بتو داد  
گوهر مردمی شعار تو کرد  
کرم و لطف خود شار تو کرد  
باطنت را بلطف خود پرورد  
ظاهرت قبله ملایک کرد  
آن یکی گنج نامه عصمت  
این یکی کارنامه حکمت  
اختر آسمان معرفتی  
زبده چار طبع و شش جهتی

قاری سوره مجاهده ای  
 قابل لذت مشاهده ای  
 خلقت برد گوی استکمال  
 همت راست سوی استدلال...  
 با تو بودست در „الست“ خطاب  
 باتو باشد بروز حشر حساب  
 گفته اسم جمله اشیاء  
 در حق تست „علم الأسماء“  
 طارم آسمان و گوی زمین  
 از برای تو ساختست چنین  
 فرش غبرا برای تو گسترد  
 چرخ فیروزه ساییان تو کرد  
 آفرینش همه غلام تو اند  
 از پی قوت و قوام تو اند  
 حکمت و فطنت و کیاست و علم  
 همت و سیرت و مروت و حلم  
 در وجود تو جمله موجود است  
 وین همه لطف و جود معبد است  
 صفت تو بقدر آنکه تونی  
 نتوان گفت آنچنان که تونی  
 نشیدی که آن حکیم چگفت  
 که بالماس دُرْ معنی سُفت  
 این همه عزت و شرف که تراست  
 تو ز خود غافلی عظیم خطاست

اتباع از شریعت :  
 اهمیتی که سنانی برای شرع قابل بوده است ، ازین بیت  
 نیک پیداست :

بی چراغ شرع رفتن در ره دین کور وار  
 همچنان باشد که بی خورشید کردن گازری (۶)

در مثنوی طریق التحقیق گوید :

تا ز شیطان خود شوی ایمن  
 شرع را شحنة ولايت کن

گر شریعت شعار خود سازی  
 روز محشر کنی سر افزایی  
 هر که بد کرد ، زود کیفر بُرد  
 وانکه بی شرع زیست ، کافر مُرد ...  
 بند بر قالب طبیعت نه  
 پای بر منهج شریعت نه (۷)

### علم :

برای پی بردن به هدف آفرینش و غایت تخلیق خود ، انسان  
 یکی از وسایلی که در اختیار دارد ، علم است و بقول سنانی :

نیست از بهر آسمان ازل

نردبان پایه به ز علم و عمل

بهر بالا و شیب منزل را

حکمت جان قوی کند دل را (۸)

علم تمیز حق از باطل بر انسان آشکار می‌سازد . وی را از هوا می  
 رهاند و به حق رهنمون می‌شود :

چیست علم ؟ از هوا رهاننده  
صاحبش را بحق رساتنده (۹)

علم سوی در الله بَرَد  
نه بسوی مال و نفس و جاه بَرَد (۱۰)

هر کرا علم نیست گمراه است  
دست او زان سرای کوتاه است (۱۱)

هر که بی علم رفت در ره حق  
خواندش عقل ، کافر مطلق

در حضورش که هست نامحدود  
هر که را علم نیست ، شد مردود

اگرت هست آرزوی قبول  
رو بتحصیل علم شو مشغول

حکمت آموز تا حکیم شوی  
همراه و همدم کلیم شوی (۱۲)

گذشته ازینکه باب پنجم کتاب حدیقه تمامش به بیان فضایل  
علم اختصاص یافته حکیم در دیوانش نیز بکرات به اهمیت این  
موضوع اشاره کرده است. از آنجمله است :

ملک دنیا مجوی و حکمت جوی

زانکه این اندکست و آن بسیار (۱۳)

جان بدانش کن مزین ، تاشوی زیبا از آنک

زیب کی گیرد عمارت ، بی نظام دست یاز (۱۴)

سنائي وقتی به تحصیل علم فرا میخواند مقصودش علم دین است  
وفقه و تفسیر و نحو و ادب ، نه منطق و اقليدس و جنس و نوع و  
فصل :

هر که از علم دین نشد آگاه  
 در بیابان جهل شد گمراه  
 آخر این علم کار بازی نیست  
 علم دین پارسی و تازی نیست  
 از پی مکر و حبیت و تلبیس  
 تاکی این جنس و نوع و فصل بود  
 عزم آن علم کن که اصل بود  
 در دیوان گوید :  
 فقه و تفسیر خوان و نحو و ادب  
 تایسا بی رضای یزدانی  
 چو تن جانرا مزین کن بعلم دین که زشت آید  
 درون سو، شاه عربیان، وبرون سو، کوشک و دیما  
 پند من بنیوش و علم دین طلب از بهر آنکی  
 جز بدانش خوب نبود زینت و فرداشتن  
 علم باید همراه با حلم باشد و صاحبی مستغنى از مال و منال و  
 سود و زیان دنیوی :  
 علم بی حلم شمع بی نور است  
 هر دو باهم چو شهر ذبور است  
 هر کرا علم و حلم نبود بیار  
 مرو را در جهان بمرد مدار  
 دانشی که بکار بسته نشود و علمی که همراه با عمل نباشد  
 سنانی آنرا دوست ندارد و آنرا بمنزله بند پای میشمارد :

علم داری عمل نه ، دان که خری

بار گوهر بربی و کاه خوری ...

دانشت هست ، کاربستان کو ؟

خنجرت هست ، صف شکستان کو ؟<sup>(۲۱)</sup>

علم با کار سودمند بود

علم یکار پای بند بود<sup>(۲۲) الف)</sup>

زباد فقه و باد فقر ، دین را هیچ نگشاید

میان در بند کاری را که ، این رنگست و آن آوا<sup>(۲۲) ب)</sup>

نه بدان لعنت ست بر ابلیس

کو نداند همی یعنی زیسار

بل بدان لعنت ست کاندر دین

علم داند ، بعلم نکند کار<sup>(۲۳)</sup>

علمی که وسیله دسترس به دستگاه امیر و وزیر گردد و بصورت

مُجَوز جمع آوری مال و مکنت و دام نام و جاه و مکان و منصب در آید

ارزشش را از دست میدهد و هیچ عاقلی آنرا نمی پسندد . آنها تی را

که علم را از آن عظمت و اوج آسمانی اش ، بوسیله حرص خود به

حضیض تحت اثری میکشند و قیافه اش را مسخ میکنند سنائی سخت

به باد انتقاد میگیرد :

علم و دین ، در دست مشتی جاه جوی مال دوست

چون بدست مست و دیوانه ست دره و ذوالفقار

ز آنکه مشتی با خلف هستند در خط خلاف

آب روی و باد ریش ، آتش دل و تن خاکسار

\* ناک - یعنی آلوه و آغشته است و هر مغشوشی یعنی هر چیز که در آن غش داخل گرده باشد

استعمال کنند عموماً مشک و غیر مغشوش را گویند خصوصاً . برهان قاطع

کز برای نام داند مرد دنیا علم دین  
وز برای دام دارد ، ناک \* ده مشنك تمار<sup>(۲۴)</sup>

و توصیه میکند :

چو علمت هست خدمت کن چو دانایان که زشت آید  
گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بظحا<sup>(۲۵)</sup>

و بر حذر میدارد :

چو علم آموختی از حرص آنگه ترس ، کاندر شب  
چو دزدی با چراغ آید ، گزیده تر برد کالا<sup>(۲۶)</sup>

همچنین علمی که بدست بسی عقل منتشر شود نیز مورد قبول  
سنائی نیست و وی آنرا برای صاحبش خالی از خطر نمیداند :  
وای آن علمی ، که از بسی عقل باشد منتشر

وای آن زهدی که از بسی علم یابد انتشار<sup>(۲۷)</sup>

آنها که بونی از علم نبرده اند و کرسی را وسیله فضل  
فروشی و تظاهر ساخته اند نیز از تیغ بیدریغ انتقاد سنائی جان سالم  
پدر نبرده اند ، در دیوان گوید :

کرسی چکند ، آنکه ندارد خبر از علم  
خورشید چه سود آن را ، کورا \* بصری نیست<sup>(۲۹)</sup>

قناعت :

از جمله فضایل اخلاقی که بسیار مورد توجه سنائی بوده یکی  
قناعت میباشد . از مشنویها گرفته تا دیوان و غزلیات وی همه جا  
حرص و طمع و آز و صاحبان آنها را مورد انتقاد قرار میدهد و از  
قناعت و خرسندی تجلیل بعمل می آورد ، در مشنوی « سنائی آباد »  
میگوید :

\* « که او را » باید باشد والا این مضراع از وزن شعر خارج می شود .

گر بود گوهر خرد مندی  
 پادشاهیست کنج خرسندی...  
 هر که زین شمع وا گرفت چراغ  
 شد دلش فارغ از فروغ فراغ  
 توچه دانی که این سعادت چیست  
 وزسر قانعی عبادت چیست (۳۰)  
 در دیوانش آمده است :  
 بیخ کانرا نشاند خرسندی  
 شاخ او بی نیازی آرد بار (۳۱)  
 شیر نر بوسد بحرمت مرد قانع را قدم  
 بیشه سگ خاید بدندان پای مرد هر دری (۳۲)  
 برسر کوی قناعت حجره ای باید گرفت  
 نیم نانی میرسد تا نیم جانی در تنست (۳۳)  
 توکل :  
 توکل نیز از جمله مسائلی است که توجه حکیم را بخود  
 مشغول داشته و وی در تمام آثار خود به اهمیت این موضوع  
 اشاراتی کرده است . در مثنوی „سنائی آباد“ میگوید :  
 پس از این روضه توکل جوی  
 بوی راحت زنفحة گل جوی  
 چون ستانی نوال او خوشنتر  
 پخشش بی شوال او خوشنتر  
 همه خواهند اند و اوست غنی  
 همه محتاج و اوست مستغنى

کشم : „ربی الله“ که پرورد هر کس  
 .. حسبي الله، که بنده را او بس  
 در همه کار یاریت زو خواه  
 دست ازین ناکسان بکن کوتاه ...  
 بهمه ناکسان اهانت کن  
 بخدای خود استعانت کن ...  
 مکن ای دوست بر خود این بیداد  
 نان طلب کن از آنکه جانت داد (۳۴)

سعی و عمل :

سنائی وقتی از قناعت و عافیت تجلیل میکند و یا به کار  
 بستن توکل فرا میخواند این بدان معنی نیست که وی از کار و  
 کوشش می هراساند و یا به بیکاری و تبلی سوق میدهد ، بلکه  
 درست برعکس این از دیدگاه وی قناعت و عافیت وسیله ای بیش  
 نیست برای ریشه کن کردن و مستأصل گردانیدن رذایل اخلاقی مثل  
 حرص و طمع و آز ، و توکل راهی است برای دست کوتاه کردن و  
 چشم فرو بستن از هر نوع چشمداشتنی از قبل آفریدگان ، والا وی  
 پیامبر سعی و عمل است و برجمدار تلاش و تقلا ، و کوشش و  
 جدوججه در سازمان اخلاقی وی حکم سنگ زیر بنا را دارد . در ..  
 حدیقه ” گویند :

هر که او تخم کاهلی کارد  
 کاهلی کافریش بار آرد  
 هر که باجهل و کاهلی پیوست  
 پایش از جای رفت و کار از دست

بتر از کاهلی ندامن چیز

کاهلی کرد دستمان را حیز <sup>(۲۵)</sup>

رنج بردار تا ببابی خنج

رنج مارست خفته برسر گنج <sup>(۲۶)</sup>

هر کجا راحتیست صد رنج است

زیر رنج اندرون همه گنج است <sup>(۲۷)</sup>

آب در گشتن است خوش چو گلاب

چون نگردد بگندد از تف و تاب

دمبدم طوف کن بهر کونی

تابینی مگر نکو روئی <sup>(۲۸)</sup>

### مرگ :

از مرگ هیچ کس را گریز نیست. این شرابیست که سر انجام

طعمش را همه می چشند :

کل نفس ذاته الموت ثم الينا ترجعون <sup>(۲۹)</sup>

ذکر مرگ بزبان رسای سنائی سنگترین دلها را نیز مبدل به موم

میکند مگر آنهاییکه مصدق .. ختم الله على قلو بهم و على

سمعهم و على ابصارهم غشاوة <sup>(۴۰)</sup> باشند :

مجلس وعظ رفتت هوست

مرگ همسایه واعظ تو بست <sup>(۴۱)</sup>

سنائی گذشته از حدیقة الحقيقة در مثنویهای سنائی آباد

و طریق التحقیق نیز به تفصیل از مرگ سخن رانده است .

همچنین در دیوانش نیز بکرات بدین موضوع اشاراتی شده است .

چنانکه همین مطالب را با تفصیل هر چه تمامتر در „حدیقة“

بیان داشته است ، که از یم تکرار فعلًا از نقل آن صرفنظر می

کنیم و علا قمندان را بخود کتاب حدیقه حوالت میدهیم (۴۲) .  
 هدف سنانی از ذکر مرگ و قبر ایجاد ترس و وحشت نیست  
 بلکه وی میخواهد که خواننده به کوتاهی مدت حیات پی ببرد و هر  
 چه بیشتر به سازو برگ بخشیدن عقبی بکوشد و با جام دادن امور  
 نیک مبادرت ورزد و از افعال نکوهیده پرهیزد .  
 درجهان شاهان بسی بودند کز گردون ملک

تیرشان پروین گسل بود و سنان چوزا فگار  
 بنگرید اکنون بنات النعش وار از دست مرگ  
 نیزه ها شان شاخ شاخ و تیرها شان پار پار  
 می نبینید آن سفیهانی که ترکی کرده اند  
 همچو چشم تنگ ترکان ، گور ایشان تنگ و تار  
 بنگرید آن جعد شان از خاک ، چون پشت کشف  
 بنگرید آن رویشان از چین ، چو پشت سوسمار  
 سر بخاک آورد امروز ، آنکه افسر بود دی  
 تن بدوزخ برد امسال ، آنکه گردن بود پار (۴۳) .  
 بزیر سنگ و گل بینی ، همه شاهان عالم را

کجا آنروز در گیتی ، ملوکان عجم بینی (۴۴)  
 تأثیر گفته های سنانی در مورد مرگ بمراتب بیشتر میگردد  
 وقتی وی از مرگ پادشاهانی مثل محمود و ال ب ارسلان سخن  
 میراند که از مرگشان مدت چندانی نگذشته بود و همین یکی  
 دونسل پیش فرمان یافته بودند و مردم داستانهای شکوه و جلال  
 آنان را هنوز از یاد نبرده بودند :  
 یک روزه رنج گدائی نیزد

همه گنج محمود زابلستانی

بدان عالم پاک مرگت رساند  
 که مرگست دروازه آنجهانی (۴۵)  
 با هزاران حسرت از چنگ اجل کوتاه گشت  
 دست محمود جهانگیر آخر از زلف ایاز (۴۶)  
 سر الب ارسلان دیدی ، زرفعت رفته بر گردون  
 بمردا آتا کون در گل ، تن الب ارسلان بینی (۴۷)

### استحاله :

برای اینکه مسأله محسوس تر شود و موضوع روشن تر سنائی  
 بخاک شدن انسان پس از مرگ و سپس بصورت کاسه و کوزه و خم و  
 سبو در آمدن آن خاک اشاره میکند . این مضمون اختصاص به  
 سنائی ندارد ، بلکه پیش از وی نیز وجود داشته است . سنائی در  
 طریق الحقيق گوید :

ای شنیده فسانه بسیاری  
 قصه کوزه گرشنو باری  
 کوزه گر سال و ماه در تک و بوی  
 تا کند خاک دیگران بسبوی  
 چونکه خاکش نقاب روی کنند  
 دیگران خاک او سبوی کنند (۴۸)

در دیوان فرماید :  
 خیزو درین گورها در نگر و پندگیر  
 ریخته بین زیر خاک ساعد و ساق و کله  
 آنکه سر زلف داشت ، سلسله بر گرد رو  
 سلسله آتشین ، دارد از آن سلسله (۴۹)

خفته بزیر خاک ، نه لا ، بل که گشته خاک  
 از خاک شان تو کرده بسی ظرف خوردنی  
 در زیر خشت چهره خاتون خر گهی  
 در زیر سنگ پیکر سرهنگ جوشنی  
 دانی تو یا ندانی ، کز خاک ما همان  
 ایدون کنند کز گل ایشان تو میکنی (۵۰)

موت اختياری و فنا فی الله :

در مورد این موضوعات نیز در متون دینی مختلف و آثار حکما  
 و عرفای بزرگ مطالب بسیار آمده است . سنایی در دیوان گوید :

بعیر ای حکیم از چنین زندگانی  
 ازین زندگانی چو مردی بمانی ...  
 ازین مرگ صورت نگر تا نترسی  
 ازین زندگی ترس کا کنون در آنی ...  
 بدر گاه مرگ آی ازین عمر زیرا  
 که آنجا امانست واینجا امانی (۵۱)

پرواز به عالم بالا :

دوری از جهان کون و فساد و عشق به پرواز به عالم معاد از شاه  
 فکر های سنایی است . همین عشق و علاقه وی به انتقال به عالم بالا  
 موجب ایجاد مثنوی „ سیر العباد الى المعاد ” وی گردید که از نفایس  
 منظومه های فارسی است . باز همین تمایل وی به گریز از این  
 جهان فانی به آن عالم باقی است که تار و پود اصل مثنوی های „  
 عقل نامه ” و تحریمه القلم ” وی را تشکیل میدهد .

این ارتقا و معراج انسانی مستلزم هیچگونه بال و پر و وسائل  
 مادی نیست بلکه در اثر دوری از علاقه دنیوی و رذائل نفسانی (از

قبيل حسد و حقد و طمع و آز و حرص وبخل و خشم و ظلم و كبر و عجب ) تدریجاً صورت میگیرد . برای اینکه موضوع روشن تر باشد و محسوس تر ، سنائی سلسله مراتب وجودی را الگو قرار میدهد و سعی می نماید که نشان دهد که چگونه در اثر قطع علاقه نفسانی ، انسان از درجه ای به درجه دیگری و از فلك به فلك بالاتری ارتقا پیدا میکند .

این فکر سنائی علاوه بر متنویهای „ سیر العباد الى المعاد ” و „ عقل نامه ” و „ تحريمۃ القلم ” در سایر آثار وی بویژه „ حدیقة الحقيقة ” و „ طریق التحقیق ” و دیوان نیز انعکاس گستردهای یافته است . از آنجمله است :

پاک شو بر سپهر ، همچو مسیح  
گشته از جان و عقل و تن بیزار

همچو نمرود ، قصد چرخ مکن  
بادوتا کرکس و دوتا مردار (۵۲)

سوی بالا گرای ، همچو شرار  
گرد پستی مگرد ، همچو مطر (۵۳)

تا تو مرد صورتی ، از خود نبینی راستی  
مرد معنی باش و گام از هفت گردون در گذار (۵۴)

رأیت همت ساق عرش بربايد فراشت  
تا توان افلاك زير سايه پرداشت (۵۵)

کد خدای هر دو عالم بود خواهی پس ترا  
رزشت باشد زير کیوان تخت و ایوان داشتن (۵۶)

تو چون زی دامگاه دیو دوری جوئی از دیوان  
بجمله بگسل آنگه روی سوی چرخ اعلاکن (۵۷)

سبک رو چون توانی بود ، سوی آسمان شا تو  
 ز ترکیب چهار ارکان همی خود را گران بینی  
 اگر صد قرن ازین عالم ، بیونی سوی آن بالا  
 چو دیگر سالکان خود را ، هم اندر نردبان بینی  
 گر از میدان شهوانی ، سوی ایوان عشق آئی  
 چو کیوان در زمان خود را ، بهفت آسمان بینی (۵۸)  
 بزیر آرجان خران را چو عیسا  
 که تا همچو عیسا شوی آسمانی (۵۹)  
 ز سبع سماوات تا بر نپری  
 ندانی تو تفسیر سبع المثانی (۶۰)  
 مخالفت با نفس :  
 متصوفین همیشه در نکوهش و تقبیح نفس کوشیده و از حیله های  
 آن بر حذر داشته اند . سنایی نیز ازین امر غافل نبوده و بنوبه خود از  
 مکر و فن نفس اماره پرده برداشته است . در متنوی « طریق التحقیق »  
 گوید :  
 نفس بس کافرست اینت بس نفس  
 گر شدی تابعش ذهی ناکس  
 سر برون بر ز خط فرمانش  
 جهد کن تا کنی مسلمانش  
 چون تو محکوم نفس خود باشی  
 بیقین دان که نیک بندباشی  
 گر کنی قهر ازو نفیس شوی  
 و مرادش دهی خسیس شوی (۶۱)

### فضیلت عدل و مذمت ظلم :

سنائی از حیث یک معلم اخلاق و یک شاعر اصلاح طلب این امر را نیز از جمله رسالت‌های اجتماعی خود میداند که از حقوق ضعفا پاسداری کند، زورمندان را از فرائض شان در مورد حفظ اعتدال و احترام به عدل و انصاف آگاه سازد و از ظلم و ستم و زور گوئی و تعدی به حقوق دیگران، باز دارد. در انجام دادن این رسالت در بعضی موارد وی کمال شهامت را بخراج داده است. ولی نکته ای که نباید ناگفته بماند اینست که در این زمینه سنائی فکر بکری نشان نداده است بلکه بیشتر همان مطالبی را بازگو کرده است که پیش از وی دیگران نیز گفته اند از جمله غزالی در کیمیای سعادت و یا راوندی در آغاز کتاب راحة الصدور. تردیدی نیست که آنها نیز بنویه خود از منابع ایرانی قدیمی تر استفاده کرده اند. با این همه نظر به شهرت و اقبالی که آثار سنائی در طول تاریخ ادب فارسی از آن برخوردار بوده است اهمیت و نفوذ گفته هایش را از نظر اجتماعی نمی شود انکار کرد.

حکیم در مثنوی حدیقة الحقيقة بهرامشاه را از فریب سخنهای تملق گویان جاه طلب بر حذر میدارد و چنین توصیه میکند:

سخنی گویمت بحق بشنو  
خیره بر راه تنگ و تیره مرو  
هر کس از روی عرف خود آیند  
مر ترا سال و ماه بستایند  
زان سخنهای خوب غرّه مشو  
همچو تر دامنان بعد منو

عدل را چند شرط لابدست  
 چون نباشد بشرط عهد شکست  
 هر کس از بهر انتفاع ترا  
 می ساید زگونه گونه جدا کن جلت  
 الامان ، الامان ؛ مشو غرّه  
 که رنجور دسته تره  
 من مداهن نیم چو دیگر کس  
 پش نارم ز ترهات هوس  
 گر شبی درهمه جهان رنجور  
 هست یک تن ، تو نیستی معذور  
 گرسگی ، ظالمی ، بدی ، سومی  
 برساند بدی بمظلومی  
 تو شوی روز حشر زان مأخوذه  
 وان زمان حسرت ندارد سود  
 عدل رفت و بجز فساد نمانت  
 در همه عالم اعتماد نمانت  
 هیج کس را تو استوار مدار  
 کار خود کن ، کسی بیار مدار (۶۲)  
 سنایی را عقیده بر اینست که عدل و ظلم شاه ، گذشته  
 ازینکه افراد ذیلاقه را متأثر میکنند در سایر پدیده های طبیعی آن  
 مملکت نیز تأثیر بسزائی دارد :  
 خلق سایه است و شاه بد پایه  
 پایه کژ کژ افکند سایه

روزگار ار درد و گر دوزد

از دل شاه عادل آموزد

شاه غمخوار نایب خرد سست

شاه خونخوار مرد نیست دد است (۶۳)

شاهی که توجهی به حال زیر دستان نداشته باشد و همواره در  
صد آسایش خویشتن باشد سنائی وی را همسنگ سگ  
میشناسد :

گرسنه مردمان و کسری سیر

سگ بود این چنین امیر نه شیر (۶۴)

بدترین کسانی در نظر سنائی آنهائی هستند که حقوق  
دیگران را زیر پا می گذارند و در آزار بی گناهان می  
کوشند :

من ندانم ز جمله اشرار

پر گناهی چوبی گناه آزار (۶۵)

هر که اnder جهان ستم جویند

دد و دیوان آدمی رویند (۶۶)

وی اینچنین کسان را از ظلم و ستم بر حذر می دارد و از آه مظلومان  
و ناله محرومان می ترساند :

آه مظلوم در سحر بیقین

بتر از تیر و ناوک و زوبین

در سحر گه دعاء مظلومان

ناله زار و آه محرومیان

بشکند شیر شرزه را گردن

در کش از ظلم خسروا دامن

آنچه در نیم شب کند زالی

نکند چون تو خسروی سالی<sup>(۶۷)</sup>

و یاد آور می شود که درازی عمر پیل و کرگس همین است که آنها به  
کسی آزاری نمی رسانند در حالی که باز و پشه و مگس بعلت  
خونریزی و آزار به دیگران زود از بین می روند :

عمر کرکس از آن بود بسیار

که نبیند کسی از او آزار...

باز اگر کبک را نکشند زار

سال عمرش فزون شدی زهزار...

هر که خون ریختن کند آغاز

زود میرد بسان باشه و باز<sup>(۶۸)</sup>

پشه از پیل کم زید بسیار

زانکه کوته بقا بود خونخوار<sup>(۶۹)</sup>

رنجه دارنده کم زید چومگس

هست کم رنج از آن زید کرکس<sup>(۷۰)</sup>

گرهی عمر ابد خواهی ، پیرهیز از ستم

زانکه از روی ستمگاریست اندک عمر باز<sup>(۷۱)</sup>

نام باقی طلبی ، گرد کم آزاری گزد

کز کم آزاری ، پر عمر بماند کرکس<sup>(۷۲)</sup>

سنایی پادشاه عادل کافر را از پادشاهی مسلمان ولی موصوف به

صفت ظلم ارجح میداند<sup>(۷۳)</sup>

در مشتوى طريق التحقيق با اشاره به عدالت بعضی از ملوک و

خسروان ایران میفرماید :

چشم دل باز کن ز روی یقین  
 ظلم حجاج (و) عدل کسرای بین  
 این یکی کافر و پسندیده  
 وین مسلمان ولی نکوهیده  
 ظلم از هر که هست نیک بدست  
 وانکه او ظالم است نیک بدست  
 هر کجا عدل روی بنمودست  
 نعمت اتدر جهان بیفرزودست  
 هر کجا ظلم رخت افکنده است  
 مملکت را زیبیخ بر کنده است  
 عدل بازوی شه قوی دارد  
 قامت ملک مستوی دارد (۷۴)

انتقاد از ارباب تقلید :  
 سنانی در آثار خود تقلید ناروا را مورد انتقاد قرار داده است .  
 در دیوان گوید :

گر بتقلیدی شدستی قانع از صانع ، رواست  
 همچنین می باش از انفاس نفس اندر جوال (۷۵)  
 در حدیقه فرماید :  
 از مقلید مجوی راه صواب  
 نردبان پایه کی بود مهتاب (۷۶)  
 راه تقلید و قید روبگذار (۷۷)  
 وز هوسها بجمله دست بیدار (۷۸)  
 دوستی ابلهان ز تقلیدست  
 نزره عقل و دین و توجیه دست

بیبراز دوستی خلق سیک

دوستی خلق سنگ و شیشه تنک (۷۸)

در مشنوی «سیر العباد الى المعاد» حکیم با ارباب تقلید در فلک  
عطارد روبرو می شود و سیماشان را چنین ترسیم میکند:

اندرو حلقه حلقه مردم کهل

دیده شد جمله یک دگر را اهل

جانشان دود و جسمشان شر زی

قبله شان نفس و دینشان سمری

همه قانع بلقمه و شهوت

دور از افساد و دور از آفت

همه افزون رضا و اندک خشم

همه با هشت قبله و یک چشم

همه دجال اعور و معیوب

در فساد زمانه بس مرغوب (۷۹)

گله از فقدان دوست:

برخوردار بودن از یارو رفیق راه و محرم راز درون همواره

بزرگترین آرزوی انسان بوده است. در مورد مردم عامه این کمبودرا

شاید بشود بنحوی مداوا و جبران کرد، ولی در مورد افراد متعالی و

صاحبان فکر و نظر بجز صبر چاره ای نیست. آنان هر چه بیشتر

به یارو و یاور و غمگسار احتیاج دارند، همان اندازه کمتر بدین

سعادت دسترس پیدامی کنند. علت و انگیزه عمدۀ محتاج بودن آنها

به رفیق همزان بجز این نیست که احوال درونی مختلفی با آنها

دست میدهد و آنها به کیفیات ذهنی گونا گونی دچار می شوند و

میخواهند که این واردات خویش را با شخص همراه و همدم درمیان

بگذارند . سنایی نیز حرمان دوست را شدیداً حس میکرده و گاهی  
بزبان نیز می آورده است ، مثلاً در مثنوی طریق التحقیق میگوید :

چکنم با که گویم این سخن  
گله از بخت یا ز چرخ کنم  
جگرم خون گرفت و نیست کسی  
که شود غمگسار من نفسی ...  
من مسکین مستمند ضعیف  
با غم و محنتم ندیدم و حریف  
گله دارم ز روزگار بسیاری  
با که گویم که نیست هم نفسی  
دوستی نیست کو شود همدم  
همدمی نیست کو شود محرم  
قدم از فکر ساختم با خود  
بو که بینم مگر بچشم خبرد  
جمله روی زمین بگردیدم  
همدمی کافرم اگر دیدم (۸۰)  
نکوش همنشین بد و صحبت عامه :  
حکیم با اینکه از کمیابی یاران با اخلاق و همرازان با اعتماد  
سخت ناراحت است ، باز هم دشمن دانا را بر رفیق نادان و نا اهل  
دون همت و معامله نافهم ترجیح میدهد و بدیگران نیز توصیه می  
کند :  
هر که چون بی بصران ، صحبت دونان طلبد  
سخت بسیار بلاها کشد از بی بصران (۸۱)

ز خلقان گرهمی ترسی ، زنا اهلان بیر صحبت  
 مترس از خار و خس هرگز، اگر بر طمع حلوانی (۸۲)  
 مرترا خصم و دشمن دانا  
 بهتر از دوستان همه کانا (۸۳)  
 این مثل زد وزیر با بهمن  
 دوست نادان بتر ز صد دشمن  
 بشنو این نکه را که سخت نکوست  
 مار به دشمنت که نادان دوست (۸۴)  
 سنایی از صحبت عامه نیز بر حذر میدارد :  
 تاتوانی رفیق عام مباش  
 پخته عشق یاش و خام مباش  
 که همه طالب جهان باشند  
 بسته بند آب و نان باشند  
 همگان بی خبر ز مبدع خویش  
 واگهی نه که چیستشان در پیش  
 عاشق خورد و خواب و پوشش بس  
 تابع شهوت و هوا و هوس  
 یار خاصان نه آن نه این جویند  
 از پی او بقای جان جویند. (۸۵)

## پاورقیهای گذارند.

۱ - مثنویهای حکیم سانی (عقل نامه ص ۱-۱۵، عشقنامه ص ۷۷-۸۰، سانی آباد ص ۴۹-۸۰).

نعریة القلم ۸۱-۱۳۹، کارنامه بلخ یا مطابه نامه ص ۱۴۱-۱۷۸، سیر العباد الى

المعاد ص ۶۷۹-۲۲۳، تصحیح و مقدمه از محمد تقی مدرس.

از انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۸ شمسی، ص ۵۰.

۲ - حدیقة الحقيقة، ص ۷۸

۳ - ایضاً ص ۴۵۸

۴ - ایضاً ص ۲۷۵

۵ - ایضاً ص ۲۷۵

۶ - مثنویها ص ۱۱۴-۱۱۵

۷ - دیوان سانی بااهتمام مظاہر مصفا، چاپ نسسه مطبوعاتی امیر کبیر تهران ۱۳۳۶ش، ص ۳۳۵.

۸ - مثنویها ص ۹۹

۹ - حدیقة الحقيقة ص ۷۳

۱۰ - مثنویها ( طریق التحقیق ) ص ۱۱۵

۱۱ - حدیقة الحقيقة ص ۷۳

۱۲ - مثنویها ( طریق التحقیق ) ص ۱۱۶

۱۳ - دیوان ص ۱۲۴

۱۴ - دیوان ص ۶۷۱

۱۵ - مثنویها ( طریق التحقیق ) ص ۱۱۵

۱۶ - دیوان ص ۳۴۲

۱۷ - ایضاً ص ۲۰

۱۸ - ایضاً ص ۲۵۱

۱۹ - حدیقة الحقيقة ص ۷۳

- ٢٠ - ايضاً ص ٣٩٠  
 ٢١ - ايضاً ص ٣٩١  
 ٢٢ الف - ايضاً ص ٣٩٢  
 ٢٢ ب - ديوان ص ٢٨  
 ٢٣ - ديوان ص ١٢٠  
 ٢٤ - ايضاً ص ١١٤  
 ٢٥ - ايضاً ص ٢٨  
 ٢٦ - ايضاً ص ٢٩  
 ٢٧ - ديوان ص ١٢٩  
 ٢٨ - حديقة الحقيقة ص ٣٠٥  
 ٢٩ - ديوان ص ٦٦  
 ٣٠ - متنوبيها ص ٦٨  
 ٣١ - ديوان ص ١٢٣  
 ٣٢ - ايضاً ص ٣٢٤  
 ٣٣ - ايضاً ص ٣٩٧  
 ٣٤ - متنوبيها ص ٦٧ - ٦٦  
 ٣٥ - حديقة الحقيقة ص ٧٣  
 ٣٦ - ايضاً ص ٥٧٢  
 ٣٧ - ايضاً ص ٧٧٧  
 ٣٨ - ايضاً ص ٥٧٣  
 ٣٩ - سورة عنكبوت ، آية ٥٧  
 ٤٠ - سورة بقره ، آية ٧  
 ٤١ - حديقة الحقيقة ص ٤٢٠  
 ٤٢ - نك : حديقة الحقيقة ص ٤٣٥ - ٤٢٠
- ٢١ - ٢٢  
 ٢٣ - ٢٤  
 ٢٤ - ٢٥  
 ٢٥ - ٢٦  
 ٢٦ - ٢٧  
 ٢٧ - ٢٨  
 ٢٨ - ٢٩  
 ٢٩ - ٣٠  
 ٣٠ - ٣١  
 ٣١ - ٣٢  
 ٣٢ - ٣٣  
 ٣٣ - ٣٤  
 ٣٤ - ٣٥  
 ٣٥ - ٣٦  
 ٣٦ - ٣٧  
 ٣٧ - ٣٨  
 ٣٨ - ٣٩  
 ٣٩ - ٤٠  
 ٤٠ - ٤١  
 ٤١ - ٤٢  
 ٤٢ - ٤٣٥
- ٢١ - ٢٢  
 ٢٢ - ٢٣  
 ٢٣ - ٢٤  
 ٢٤ - ٢٥  
 ٢٥ - ٢٦  
 ٢٦ - ٢٧  
 ٢٧ - ٢٨  
 ٢٨ - ٢٩  
 ٢٩ - ٣٠  
 ٣٠ - ٣١  
 ٣١ - ٣٢  
 ٣٢ - ٣٣  
 ٣٣ - ٣٤  
 ٣٤ - ٣٥  
 ٣٥ - ٣٦  
 ٣٦ - ٣٧  
 ٣٧ - ٣٨  
 ٣٨ - ٣٩  
 ٣٩ - ٤٠  
 ٤٠ - ٤١  
 ٤١ - ٤٢  
 ٤٢ - ٤٣٥
- ٢١ - ٢٢  
 ٢٢ - ٢٣  
 ٢٣ - ٢٤  
 ٢٤ - ٢٥  
 ٢٥ - ٢٦  
 ٢٦ - ٢٧  
 ٢٧ - ٢٨  
 ٢٨ - ٢٩  
 ٢٩ - ٣٠  
 ٣٠ - ٣١  
 ٣١ - ٣٢  
 ٣٢ - ٣٣  
 ٣٣ - ٣٤  
 ٣٤ - ٣٥  
 ٣٥ - ٣٦  
 ٣٦ - ٣٧  
 ٣٧ - ٣٨  
 ٣٨ - ٣٩  
 ٣٩ - ٤٠  
 ٤٠ - ٤١  
 ٤١ - ٤٢  
 ٤٢ - ٤٣٥

- ٤٣ - ديوان ص ١٠٩  
٤٤ - اياص ٢٥٨  
٤٥ - اياص ٢٤٦  
٤٦ - اياص ٧١  
٤٧ - اياص ٣٦٠  
٤٨ - متنوها ص ١٠١  
٤٩ - ديوان ص ٢٠٩  
٥٠ - اياص ٣٥٦  
٥١ - ديوان ، ص ٣٤٥  
٥٢ - ديوان ص ١٢١  
٥٣ - اياص ١٥٧  
٥٤ - اياص ١٢٤  
٥٥ - اياص ٢٥٠  
٥٦ - اياص ٢٥٧  
٥٧ - اياص ٢٦٢  
٥٨ - اياص ٣٥٨  
٥٩ - اياص ٢٤٥  
٦٠ - اياص ٢٤٥  
٦١ - متنوها ص ١١٦  
٦٢ - حديقة الحقيقة ص ٥٤٤ - ٥٤٣  
٦٣ - اياص ٥٤٩  
٦٤ - اياص ٥٨٢  
٦٥ - حديقة ، ص ٥٤٨  
٦٦ - اياص ٥٤٩

- ٦٧ - ايضاً ص ٥٥٩  
 ٦٨ - ايضاً ص ٤١٣  
 ٦٩ - ايضاً ص ٥٤٣  
 ٧٠ - ايضاً ص ٥٤٩  
 ٧١ - ديوان ص ٦٧١  
 ٧٢ - ايضاً ص ٦٧٢  
 ٧٣ - ايضاً ص ٣٢٥  
 ٧٤ - متريها ص ١٣٥ - ١٣٦  
 ٧٥ - ديوان ص ١٩٣  
 ٧٦ - حديقة الحقيقة ص ٣٢٢  
 ٧٧ - ايضاً  
 ٧٨ - ايضاً ص ٤٥٦  
 ٧٩ - متريها ص ٢٠٥  
 ٨٠ - متريها ص ١١١  
 ٨١ - ديوان ص ٢٣٦  
 ٨٢ - ايضاً ص ٣٢٣  
 ٨٣ - حديقة الحقيقة ص ٤٤٨  
 ٨٤ - متريها (طريق التحقيق) ص ١٢٨  
 ٨٥ - ايضاً

الكتاب الثاني عشر من سلسلة الكتب التي تتناول مفهوم العدالة في الإسلام  
 وورقة حقوق الإنسان في الإسلام

دکتر محمد کلیم سپسرامن\*

## بررسی مختصر پیشرفت زبان و ادبیات فارسی در بنگال

نفوذ زبان فارسی در بنگال پیش از قرن هفتم هجری قمری (سیزدهم میلادی) بچشم میخورد، چنانکه بعضی از صوفیای دوره نخستین در بنگال به تبلیغ و اشاعه دین مبین اسلام بزبان فارسی که زبان مادری ایشان بود می‌پرداختند و مریدان و حلقه بگوشان اسلام تحت تأثیر مرشد روحانی خویش زبان فارسی را یاد می‌گرفتند.

ولی هنگامیکه بنگال بدست اخیارالدین محمد بن بختیار خلجی در سال ۱۲۰۴ میلادی (اواخر قرن ششم هجری قمری) افتتح شد، زبان فارسی ریشه عمیق در سر زمین بنگال گرفت زیرا در زمان فرمانروایان ترکان خلنجی ۱۲۰۴ - ۱۳۴۲ میلادی زبان رسمی بنگال، فارسی بود. مورخ معروف منہاج سراج مؤلف "طبقات ناصری" را محیط دهلی سازگار نیامد و از مقام قضاوت استعفا داد و همراه ملک عزالدین طغول طغان خان در ماه ذی الحجه سال ۶۴۰ هـ (۱۲۴۲ م) وارد لکھنوتی شد. در اینجا مدت دو سال ۱۲۴۲ - ۱۲۴۴ م (۶۴۰ - ۶۴۲ هـ) تحت الطاف و اکرام بی بایان طغان خان زندگانی خوشی را سپری نمود و در معیت وی بسال ۱۲۴۵ م (۶۴۳ هـ) بدهلی برگشت. منہاج سراج در ضمن رواج تعلیم و بنای مدارس و مساجد توسط بختیار خلنجی و أمرای او چنین مینویسد:

"چون محمد بختیار آن مملکت (بنگال) را ضبط کرد ۰۰۰ و بر موضعی که لکنوتی است، دارالحکومت ساخت و اطراف آن مالک را در تصرف آورد و خطبه و سکه در هر خطه قائم کرد و مساجد و مدارس و خانقاهات در آن اطراف بسعی جمیل او و أمرای او بناشد." (۲)

\* زاده ۱۲ زانویه ۱۹۳۰ م در سپسرامن (آنده). استاد فارسی و اردو و رئیس بخش زبان‌آد دانشگاه راجشاھی - راجشاھی - بنگلادش

از این نوشته که نقل شد آشکار می‌شود که همراهیان و لشکریان محمد این بختیار خلجی که وارد بنگال شدند، بیشتر فارسی زبان بودند و بوسیلهٔ ایشان زبان فارسی در اطراف و اکناف بنگال در زمان سلاطین خلجی انتشار یافت تا اینکه در اوایل قرن هفتم هجری نخستین کتاب فارسی در بنگال برشته تحریر درآمد و آن ترجمهٔ کتاب سانسکریت بنام "امریت کند" (Amrit Kunda) توسط قاضی رکن الدین سمرقندی است. در اواخر سدهٔ هفتم هجری قمری کتابی بنام "مقامات" در موضوع تصوف که اثر مولانا شرف الدین ابو توامه میباشد و "نام حق" رسالهٔ مختصری راجع به موضوع فقه اسلامی که تالیف صوفی نامبرده محسوب میشود، نوشته شد.

در راه پیشرفت ادبیات فارسی قدم دیگری که بروداشته شد این بود که موقعی که بغرا خان همراه بدرش، غیاث الدین بلبن جب رفع قیام ملک عزالدین طغقول بسال ۶۷۸ هـ (۱۲۷۹ م) به لکنوتی وارد گردید (۳) علاوه بر شمس دبیر و قاضی اثیر در معیتش امیر خسرو و حسن سجزی نیز بودند. پس از رفع قیام چون غیاث الدین بلبن (سلطان دهلی) بسال ۱۲۸۰ م (۶۷۹ هـ) (۴) پسر کوچک خویش ناصر الدین محمود بغرا خان را بحکومت بنگال مأمور کرد. شمس دبیر (م ۱۳۰۷ / ۵۷۰ هـ) از طرف پادشاه دهلی بسمت میر منشی بغرا خان منصوب گشت و سعی نمود که امیر خسرو در لکنوتی وابسته به دربار بغرا خان بهاند ولی امیر خسرو بدھلی مراجعت کرد چنانکه در این مورد مینویسد:

"ملک شمس الدین دبیر و قاضی اثیر خواستند که به لباسانم دامنگیری کنند اما فراق عزیزانم گریبان گیر بود" (۵)

البته شمس دبیر و قاضی اثیر تا آخر در دربار بغرا خان بودند و از شعرای ممتاز و نویسنده‌گان برجسته‌ی دورهٔ خویش بشمار میرفتدند. ملا عبدالقدار بدایونی

مورخ معروف درباره شمس دبیر چنین آورده است:  
 ”و از جمعی که در عهد ناصری کوس شاعری  
 نواخته بدرجۀ ملک العلامی رسیده بودند یکی شمس  
 الدین دبیر است که آثار فضایل و کمالات او از حد بیان  
 و توصیف و تعریف مستغنى است و میر خسرو قدس  
 الله سره عیار اشعار خود را بر محک قبول طبع او زده  
 با ان مبابات فرموده و در دیباچه غرة الکمال و در آخر  
 هشت پیشتر کلام خود را بذکر محامد و نشر مناقب او  
 زیور تمام بخشیده و سلطان غیاث الدین بلبن در آخر  
 حال او را منشی ملکت بنگال و کامروود (آسام) ساخته  
 در ملازمت پسر بزرگ خویش نصیر الدین بغرا خان  
 گذاشته بود“.<sup>(۶)</sup>

محمد قاسم هندو شاه فرشته مؤرخ برجسته و  
 معروف چون از قول بدایونی نقل کرده پس نوشته او  
 نیز خالی از اشکال نمی باشد چنانکه در زیر مشاهده  
 می شود:

”زودی شمس الدین وزیر پسر شمس ایلتمش  
 شده“.<sup>(۷)</sup>

شیخ محمد اکرام<sup>(۸)</sup> و شادروان بروفسور  
 محمود شیرانی<sup>(۹)</sup> نیز شمس الدین را میر منشی پسر  
 بزرگ غیاث الدین بلبن بنام بغرا خان و استاد سلطان  
 المشایخ نظام الدین اولیاء (رح) نوشته اند و احتمال  
 میرود که این اشتباہ بزرگ ناشی از قول ملا  
 عبدالقدار بدایونی باشد.

پیرامون اشتباہات در بیانات بالا چنانکه از  
 مورخان و محققان معروف نقل شده میتوان گفت که:  
 (۱) نام پسر بزرگ غیاث الدین بلبن محمد سلطان  
 بود.<sup>(۱۰)</sup>

(۲) نام پسر کوچک وی نصیر الدین محمود بغرا  
 نبود، بلکه ناصر الدین محمود بغرا بود.

(۳) فرشته پسر کوچک غیاث الدین بلبن را اشتباہاً  
 ناصر الدین محمود، سلطان دهلی (۶۴ - ۶۴/۵)<sup>(۱۱)</sup>

۱۲۴۶ م) پسر شمس الدین ایلتمش تصور

میکرد و بهمین علت شمس دبیر را وزیر پسر شمس الدین ایلتمش نوشته است . حقیقت آنست که زمان سلطنت پسر شمس الدین ایلتمش (ناصر الدین محمود) تقریباً هفده سال پیش از ماموریت بغرا خان پسر غیاث الدین بلبن به حکومت مملکت ینكال بایان یافته بود .

(۴) استاد نظام الدین اولیاء شمس الدین

خوارزمی و شمس الدین دبیر نبود . (۱۲)

(۵) امیر خسرو در خاتمه "هشت پیش" از

شهاب الدین میرمه نامبرده و از شمس دبیر ذکری

نموده است . (۱۳)

در قرن چهاردهم میلادی (هشتم هجری قمری) یکی از شاگردان بر جسته و ممتاز مولانا شرف الدین ابوتوامه و صوفی معروف زمان خویش در شبه قاره مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد دین یحیی منیری می باشد که آثارش را بچهار قسمت میتوان تقسیم کرد که تفصیل آن بشرح زیر است:

(۱) تألیفات (ب) مکتوبات (ج)

ملفوظات (د) رسائل .

(۱) تألیفات مطالب الطالب معروف به شرح آداب المریدین

تألیف شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب .

(ب) مکتوبات: (۱) مکتوبات صدی (۲) مکتوبات دو صدی

(۳) فوائد رکنی (۴) مکتوبات بست و هشت

(ج) ملفوظات: (۱) معدن المعانی (۲) خوان بر نعمت

(۳) بحر المعانی (۴) گنج لا یفنی

(۵) ملفوظ الصغر (۶) مونس المریدین

(۷) مع المعانی (۸) مغز المعانی

(۹) اسباب النجاة لفرقة العصاة

(۱۰) راحت القلوب

(د) رسائل:

(۱) ارشاد السالکین و برهان الاعارفین

(۲) مرآة المحققین (۳) ارشاد الطالبین

- (۴) رساله اوراد (۵) رساله در هدایت حال  
 (۶) رساله در ذکر (۷) رساله ممکیه یا  
 ذکر فردوسیه (۸) رساله وصول الی الله  
 (۹) عقاید شرقی (۱۰) فواید المریدین  
 (۱۱) اجویه خرد (۱۲) اجویه کلان  
 (۱۳) اشارات (۱۴)

در زمان سلطنت سلطان غیاث الدین اعظم شاه ۷۹۲ - ۸۱۲  
 ۱۳۸۹ - ۱۴۰۹ م بن سلطان سکندر شاه که یکی از سلاطین خانواده  
 الیاس شاهی بنگال میباشد، زبان و ادبیات فارسی پیشرفته زیادی کرده  
 که آن را میتوان عصر طلایی ادبیات فارسی در بنگال نامید. حضرت  
 نور قطب عالم در همین عهد میزیسته که یکی از شاعران و نویسندهای  
 برجسته آن دوره بشمار میرفت. از آثار وی "ائیس الغرباء" و  
 "مکاتیب فارسی" و "رساله وصول الی الله" محفوظ مانده است و بجز  
 چند شعر فارسی که در تذکره "صبح گلشن" و مکاتیب وی ذکر شده  
 و یک نظم فارسی مخلوط بالفاظ محلی که در "مسائل المشایخ" آمده  
 چیز دیگری بدست ما نرسیده است. اینک نمونه شعر از شیخ نور قطب  
 عالم:

کردیم بسی سپید سیمی  
 اما نشد این سیه گلیمی  
 شستیم بسی بچاره سازی  
 بیراهن ما نشد نهازی (۱۵)

بنا برآورده مؤلف "مسائل المشایخ"، "مونس الفقراء" و "خانواده  
 چشتیه" نیز از تألیفات شیخ نور قطب عالم میباشد که اکنون در دست  
 نیست. شاه قطب الدین حقانی که از خانواده چشتیه در بنگال میباشد  
 کتابی در موضوع تصوف موسوم به "مسائل المشایخ" در حدود سال  
 ۹۰۰ هـ ترتیب داده که در آن از قول شیخ نور قطب عالم نیز استدلال  
 و استفاده کرده است.

علاوه بر این پادشاه وقت سلطان غیاث الدین اعظم شاه خود ذوق  
 شعری داشت و حافظ شیرازی را به بنگال دعوت کرد و مصرعی که  
 خودش ساخته بود برای حافظ فرستاد تا بر وزن آن غزلی بسراید که آن  
 مصروع اینست:

"ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود"

بنابر ضعف پیری و مسافت طولانی بنگال حافظ شیرازی نتوانست  
دعوت سلطان نامبرده را قبول کند ولی در باسخ آن غزی فرستاد که در  
مطلع و مقطع و نیز یکی از ابیات آن لفظ بنگال و نام سلطان را آورده  
است که در ذیل نقل میشود: (۱۶)

ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود  
واین بحث با ثلاثة غساله میرود  
شکر شکن شوند همه طوطیان هند  
زاین قند پارسی که به بنگاله میرود  
حافظ زسوق مجلس سلطان غیاث دین  
خامش مشوکه کار تو از ناله میرود (۱۷)

”شرفنامه منیری“ یا ”فرهنگ ابراهیمی“ در قرن ۱۵ میلادی در  
زمان یکی از سلاطین الیاس شاهی در بنگال نوشته شد، مولف کتاب  
مزبور ابراهیم قوام فاروقی در این فرهنگ فارسی علاوه بر شعر خود  
ابیاتی از ملک الشعراً امیر زین هراتی و از فرهنگ امیر شباب الدین  
حکیم کرمانی که در زمان او در بنگال میزیستند در ضمن استناد آورده  
است ولی غیر از این از شعراً و نویسندان دیگر هیچ تالیفی از آن عهد  
در دست نیست که بتوان ارزشیابی کرد.

در عصر سلاطین سلسلهٔ حسین شاهی ۱۹۰۰ - ۱۴۹۴/۵۹۴۵ - ۱۵۳۸ میلادی زبان فارسی پیشرفت زیادی کرد. سلطان علاءالدین  
حسین شاه و جانشینان وی فارسی را رسمی قرار دادند ولی در رواج  
زبان محلی (بنگال) نیز کوتاهی نه کردند. در زمان ایشان داستانهای  
رسمی از سانسکریت به فارسی ترجمه شده، ساختهایی که بوسیلهٔ  
علاوه‌الدین حسین شاه در لکوتی و پندوه بنانده دارای کتبیه‌های فارسی  
و عربی میباشد اما متأسفانه نام نویسنگان این کتبیه‌ها به نرسیده که  
درباره ایشان بتوان صحبت کرد. در همین دوره کتاب ارزنه تحت  
عنوان ”هدایة الرّامی“ در فن تیر اندازی نوشته شده که از لحاظ  
موضوع در بنگال نخستین کتاب بشمار می‌آید. مؤلفش میری سید علوی  
است که از دید اسلامی دربارهٔ فن تیر اندازی بحث مفصلی کرده است  
کتاب مذبور بسلطان علاءالدین حسین شاه اهدا گردیده است.

در زمان شاهان مغول در بنگال زبان و ادبیات فارسی بیشتر مورد  
توجه قرار گرفت چنانکه سربرستان شعراً و فضلاء مثل خانخانان منعم  
خان، خانجیان و راجا مان سینگ در عهد اکبری حکومت بنگاله را بعده  
داشتند. در این دوره پیرام سقا وارد بنگال شد و در برداوان (ناحیه‌ای

از کلکته) فوت کرد. دیوان فارسی اش دارای غزلیات و رباعیات و مثنویات و مخمسات وغیره است. روابط بهرام سقا با جلال الدین اکبر شاه کبیر از مثنویاتش هویدا است. وی شاعر برجسته و شیرین گفتار دوره خویش بشمار میرود.

اسلام خان، قاسم خان جوینی و ابراهیم خان فتح جنگ در عصر جهانگیر بسمت حکومت مملکت بنگال مأمور گردیدند. نویسنده‌گان و شاعران فارسی به تصنیف و تألیف و سخنرانی پرداختند. قاسم خان جوینی از شاعران متاز دوره خویش محسوب میشود.

علاوه‌الدین اصفهانی معروف به میرزا ناهرن که یکی از افسران نظامی در لشکر شاهان مغول است، کتابی بنام "بیهارستان غیبی" در بنگال تألیف نمود. وی در این کتاب مشاهدات و تجربیات عهد جهانگیری را بیان می‌نماید که سپاهیان مغول به از فتح آسام بطريق مختلف اظهار شادمانی می‌کردند که از آنچمه مشاعره (محفل شعر خوانی)، و داستان گونی و اجتماع مغنهیان می‌باشد. (۱۸) شعراء همراه لشکریان بمیدان جنگ میرفتدند و احوال جنگ و کارگزاری‌های لشکر را بر شته تحریر در می‌آوردند. چنین چکامه‌های "جنگ نامه" می‌نامند، چنانچه جنگ نامه‌های مولانا لقمان و مولانا میر قاسم و ملک مبارک را از لحاظ تاریخی میتوان ارزنده و مهم شمرد. (۱۹) عبداللطیف که مستخدم عادی دیوان بنگال بنام ابوالحسن است، خاطرات خود را تحت عنوان "هفت اقلیم" بسال ۱۰۱۷ هجری ترتیب داد که دارای جنبه تاریخی و اجتماعی میباشد.

در عهد سلطنت شاهجهان، شیزاده شجاع حکومت بنگاله را بعده داشت. این دوره طولانی در تاریخ ادبی و فرهنگی بنگال عصر پرازشی بشمار می‌رود. بنا بر قول محمد صادق، جهانگیر نگر (داکای فعلی) مرکز علم و ادب بود و در آنجا شخصیتی‌ای علمی و مذهبی مثل میر علاوه‌الملک (استاد شاهزاده شجاع) و برادرش میر ابوالعالی که هردو شعر فارسی نیز میسرودند، گرد آمده بودند. علاوه بر این اسمای شاعران برجسته چون عبدالرحیم حیدری، خواجه سعید الدین مشهدی، احمد بیگ اصفهانی، محمد حسین منیر غفاری و مولانا ندیم گیلانی را که در آن دوره میزیستند تذکر داده است. میرزا محمد صادق که مینا تخلص داشت پسر میرزا محمد صالح اصفهانی میباشد. وی نویسنده برجسته و دارای شخصیت متاز بود، از تألیفاتش "صبح صادق" که از لحاظ مطالب علمی ادبی و تاریخی دارای اهمیت بسیاری است، دارای چهار

مجلد میباشد و بنام شیرزاده شجاع اهدای گردیده است. تألیف دیگری وی که شامل داستانهای ادبی و لطایف تاریخی و اشعار و ضرب الامثال فارسی میباشد بنام "شاهد صادق" در همین عهد ترتیب داده شده است. میر محمد معصوم کتابی با اسم "تاریخ شاه شجاع" (تاریخ معصومی) سرپرستی شاهزاده شجاع نوشته که از حاظ اتفاقات تاریخی آن دوره مهم بشمار میرود. بنا بر قول مورخ معروف جادومنات سرکار "بیشتر اعیان و ارکان دولت، دانشمندان ایرانی نژاد و شیعه مذهب بودند" چنانکه از نامهای ایشان ظاهر میگردد و احتمال میرود که ایشان مستقیماً از راه دریا وارد بنگال شده باشند. (۲۰) ولی علاوه بر ایرانیان از اطراف و اکناف شبه قاره هند و پاک نیز شاعران و دانشمندان در آنجا گرد می‌آمدند و مورد احترام و الطاف بی پایانی دربار قرار میگرفتند. از آنجمله اسم میر لاهوری را میتوان برد که در صفت بنگال مشنوی زیبائی سروده که اخیراً توسط اداره مطبوعات پاکستان در کراچی چاپ گردیده است.

تاکنون زبان و ادبیات بنگال بعلت توجه شاهان و حکام پیشین پیشرفت کرده. کتاب مذهبی هنود از سانسکریت به بنگالا ترجمه شده ولی در زمان شیرزاده شجاع زبان بنگالا نیز تحت تأثیر فارسی قرار گرفت چنانچه علاوه نخستین شاعر بنگالا است که "سکندر نامه" و "هفت بیکر" نظامی را بزبان بنگالا در آورده و طبق نوشته مولوی حمید الله چاتگامی بنابر سبک و تشبيهات و موضوعات که با فارسی مائلث دارد، امکان میرود که علاوه بزبان فارسی نیز شعر میسروده است. (۲۱)

در زمان سلطنت اورنگزیب عالمگیر ۱۰۶۹ - ۱۱۱۹ ه / ۱۶۵۸ - ۱۷۰۷ م میرجمله و شایسته خان و شیرزاده محمد اعظم و عظیم الشان حکومت بنگال را بعیده داشتند و در زمان ایشان نیز فارسی نه فقط پیشرفت کرد بلکه شاعران و نویسندهای فارسی از طرف اعیان دولت مورد تشویق و انعام قرار گرفتند. کتابهای مهم که درباره میرجمله و شایسته خان برگشته تحریر در آورده شده "تاریخ ملک آسام" یعنی "عجیبۀ غریبۀ" (فتحیه عربیه) که موضوع آن تاریخ آسام است از تألیفات شباب الدین تالش میباشد. کتاب دیگری که توسط احمد علی صفوی نوشته شده "تاریخ عالمگیری" است.

بس از شیرزاده عظیم الشان پایتحت حاکم بنگال از "دایا" به "مرشد آباد" منتقل شد. اگرچه مرشد قلی خان نائب ناظم بنگال پیش از این بعلت اختلاف با شیرزاده عظیم الشان بسال ۱۱۳۰ ه / ۱۷۰۴ م مرشد قلی خان رسماً بحکومت بنگال گماشته شد. از همین زمان حکام لقب

”نواب“ را برای خود برگزیدند و از سلطنت مرکزی دهلي آزاد گشتند. در دوره پنجاه ساله نوابان، مرشد آباد مہمازین مرکز علم و ادب و فرهنگ و هتر بود. علل سیاسی این پیشرفت، یکی آن بود که پس از کشته شدن نادر شاه بحران شدیدی در ایران رخ داد و شخصیت‌های علمی و ادبی از وطن خود مهاجرت نموده وارد مرشد آباد شدند و در آنجانه ارکان و اعیان دولت که شیعه مذهب بودند مورد احترام شایانی قرار گرفتند. تفصیل شیعیان مهاجر را که در زمان نواب شجاع الدین و نواب علی وردی خان به مرشد آباد روی تبادند مؤلف ”سیرالمتأخرین“ بیان نموده است و طرف دیگر شمال هند نیز به بحران سیاسی دچار شده بود و در نتیجه آن شخصیت‌های فرهنگی و هتری از گوشه و کنار شبہ قاره هند و پاک تحت سرپرستی نوابان مرشد آباد گرد آمدند چنانکه شاعران متاز و مشهور ایرانی مثل اقدس و محمور بدامن دولت مرشد قلی خان وابسته بودند (۲۲) و از شاعران ان محلی برق میان معاصران خود مقام برجسته ای داشت و بلقب ”طوطشی بنگال“ معروف بود (۲۳). نواب مرشد قلی خان مخفی تخلص داشت و قاضی غلام مظفر حسین معروف به مظفر علی خان که در عهد نواب علی وردی خان رئیس دیوان عالی بود، شعر هم میسرود.

علاوه بر این در ”عبد نظمات“ کتابهای تاریخ تألیف گردیده که تفصیل آن را در زیر می‌آوریم:

(۱) احوال مهابت جنگ تأليف یوسف علی (۲) سیرالمتأخرین تأليف غلام حسین طباطبائی (در سه مجلد) (۳) مظفرنامه تأليف کرم علی (۴) واقعات فتح بنگاله تأليف محمد وفا (۵) تاریخ ابراهیم خانی تأليف علی ابراهیم خان (۶) نوبهار مرشد قلی خانی تأليف آزاد حسین بلگرامی (۷) چهار گلشن تأليف چترمان کایت.

گذشته از تواریخ فوق، تذکره شعرای فارسی بنام ”حديقة الصفا“ تأليف یوسف علی نیز در این دوره نوشته شده. کتاب بنام ”مجموعه یوسفی“ که مجموعه متفرقات یوسف علی است و نیز ”گل بکاوی“ که داستان رُمانی فارسی است اثر عزت الله میباشد و بسال ۱۷۲۲/۵ ۱۱۲۵ م تأليف گردیده از آثار همین زمان محسوب میشود.

پس از جنگ پلاسی که بسال ۱۷۵۷/۵ ۱۱۷۱ م بوقوع پیوست ”نظمات بنگال“ بایان رسید و ملکت بنگال بتصرف انگلیسها درآمد ولی کتابهای زیر راجع بتاریخ در اوابل تصرف انگلیسها نیز بزبان فارسی تأليف گردید:

(۱) تاریخ بنگاله تألیف سلیم الله (۲) ریاض السلاطین تألیف غلام حسین سلیم (۳) حدیقة الاقليم تألیف مرتضی حسین معروف به الله یار عثمانی بلگرامی (۴) خورشید جهان نما تألیف البی بخش (۵) خلاصه التواریخ تألیف کلیان سینگ پسر راجا شتاب رای و (۶) بخش دوم آن بنام "واردات قاسمی" معروف است.

علاوه بر این تذکره "گلزار ابراهیم" تألیف علی ابراهیم خان خلیل نیز که مشتمل بر تذکره سیصد شاعر اردو میباشد بسال ۱۱۹۷ ه / ۱۷۸۲ میلادی بربان فارسی نیز نوشته شده. در قرن دوازدهم هجری زبان فارسی در میان هندوان نیز انتشار فراوانی یافت و در دربار حاکمان مثل "ندیا" و "برداوان" نفوذ فارسی به چشم میخورد. چنانچه مطالعه زبان و ادبیات اسلامی و غیر اسلامی فارسی را بدون امتیاز مذهب و ملت بایکدیگر نزدیک تو ساخت.

در شبیه قاره بسال ۱۲۵۲ ه / ۱۸۳۶ م بجای زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان رسمی شد ولی پس از جنگ پلاسی پایتخت بنگال از مرشد آباد به کلکته منتقل شد و کلکته مرکز تازه فعالیت‌های ادبی و علمی گردید. علت بزرگ این فعالیت‌های گوناگون را منوط به دائر شدن چاپخانه در بنگال داشت که به انتشار کتابهای علمی و ادبی در زبان فارسی مبادرت میکرد. معذالک در گوشه‌های مختلف بنگال تألیف و تصنیف در زبان فارسی در جریان بود. بدون شک و تردید در قرن سیزدهم هجری پنج مرکز بزرگ فارسی مشاهده میشود که عبارت اند از: داکا، چاتگام، سلیت، فرید پور، و کیلا. از شعرای ممتاز و نوبستگان معروف داکا، خواجه عبدالرحیم صبا، خواجه احسن الله شاهین، سید مخدود آزاد، باقر طباطبائی، محمود شیرازی، عبدالرحیم دهربه تمنا گور کهبوری و عبید الله عبیدی وغیره را اسم میتوان برد.

در چاتگام صوفی فتح علی شاه ویسی، خان بسادر حمید الله حمید، عبدالعلی دری، فیض الدین خاکی، محمد اسماعیل عنبر، محمد وجه الله سامی و فوزالکبیر شوق وغیره از شعرای قابل ذکر بشمار می‌آیند. همچنین از شعراء مشاهیر سلیت که در آن دوره میزبانند و در زبان فارسی شعر می‌سرودند عبارتند از حاجی الله بخش حامد، حاجی ناظر محمد عبدالله آشفته، فدا حسین فدا، شاه تفضل علی فضلی و محمد عبدالرحمن ضیا وغیره.

مرکز چهارم زبان فارسی فرید پور است که در آنجاییکی از شاعران مشهور زبان اردو و فارسی یعنی عبدالغفور نساخ و پرسش مظہر الحق

شمس میزیستند، علاوه بر آنها سراج الدین سراج و حفیظ الدین احمد شهید وغیره دیده میشوند.

در مرکز پنجم، کُملًا شاعرانی مثل حمید الدین حمید، عضد الدین عضد، ریاضت الله اوچ و عبدالرحمن سعید وغیره بچشم میخورند. غیر از این در نقاط مختلف دیگر نیز نقوش و آثار فارسی مشاهده میشود و در هنگام مطالعه بوجود شعرای مثل تشنه در جیسور، محمد فاضل در باریسال، عبدالرشید رشید، و کاظم رحمتی در بینا، سعادت الله سعادت در رنگ پور، و بلال الدين عنبری در میمن سینگ، اطلاع مییابیم که سخت مشغول فعالیتهای ادبی در زبان و ادبیات فارسی بوده اند.

اگر روزی بتوان بکلیه اسناد و منابع و مأخذ دولتی و شخصی دست یافت با توجه بآنها و بخصوص اسناد دولتی و کتابهای تاریخی میتوان گفت که مدارس مذهبی خصوصی که وابسته بمساجد و خانقاھها بودند علاوه بر تدریس زبان و ادبیات عربی، حدیث و منطق، و فقه اسلامی و بویژه تدریس زبان فارسی سعی بلیغ مبذول میداشتند. هدف تأسیس این نوع مدارس هرگز جلب منتفعت نبود بلکه محض ثواب دارین و اصلاح مبانی اخلاقی بود چنانچه کتابهای فارسی که در برنامه این مدارس دیده میشود با برنامه های دیگر مدارس ایالت مختلف شبه قاره چندان فرق و اختلاف نداشت. گزارش کمیسیون آدم که بسالهای ۱۸۳۵ و ۱۸۳۸ میلادی از طرف دولت بنگال انتشار یافت در آن تفصیلات تدریس و برنامه مدارس مذکور پیداست، البته از وقتی که اهمیت زبان فارسی بعنوان زبان رسمی از بین رفت بتدریج عده ای از مدارس دینی و اساتید و طلابی که در آن مشغول تدریس و تحصیل بودند رو بکایش گذاشت.

بعقیده شیخ محمد اکرام کتابهای فارسی که در سده سیزدهم هجری / نوزدهم میلادی تصنیف و تألیف شده تعداد شان بیشتر از گذشته شش قرن آثار فارسی نیست که در این ملکت بوجود آمده . بنظر بنده عقیده شیخ محمد اکرام ناشی از دو نوع اشتباه می باشد. نخست اینکه در سده نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میلادی علاوه بر نشر نویسان تعداد شعرای این دوره به هفتاد نفر میرسد که بدون شک و تردید بیشتر از نویسندگان دوره پیش و بعد بود، دوم اینکه شیخ مذکور بهم کتابهای چاپی و خطی که در اختیار کتابخانه های شخصی در گوشه های مختلف این سرزمین بود، دسترسی نداشت، در این دوره علاوه بر نسخه های خطی برخی از

کتابهای چاہی که از نظر موضوع بحث مهم بشمار می‌رود، در زیر می‌آورم:  
 دیوان عبیدی، مثنوی عبرت افزا، دیوان آزاد، دیوان شاهین، دیوان باقر  
 (طباطبائی)، محنن حقیقت، برهان العارفین، فرباد عاصی، قصاید منتخبه،  
 مرغوب دل، دیوان وسی، ارمغان احباب، غم عم، ریاض النور، سهیل  
 یمن، تنویر القلوب، ترقیم السعادت، دیوان فاضل، کنزالسعادت، رساله  
 العروض والقوافی، مثنوی یادگار اجداد، مثنوی فوائد شمسیه، مثنوی  
 مشرق الانوار، تشحیذ الادراک فی تحقیق حرکة الارض و وجود  
 الافلک، وغیره.

پیشرفت زبان و ادبیات فارسی در نیمه اول قرن بیستم میلادی  
 (چهاردهم هجری قمری) بعلت غله فرهنگ و تمدن غیر مسلمانان رو به  
 انحطاط کشید. همچنین تدریس و تألیف فارسی نسبت به قرن گذشته  
 رفته رفته کمتر شد مگر اینکه در بین نسل گذشته افراد آشنا به سنت  
 دیرین گاه گاهی اقدام به فعالیت‌های در زبان و ادبیات فارسی نموده اند  
 و علاوه بر آثار فارسی محض آنها، آثار بعضی از نویسندهای که در زبان  
 اردو چاپ شده نیز دارای اشعار فارسی است که بذکر برخی اسامی این  
 نوع کتابهای فارسی که بچاپ رسیده است می‌پردازم:

دیوان عزیز از مولانا عزیزالحق چاتگامی، دیوان ذوق چاتگامی از  
 مولانا محمد سلطان ذوق چاتگامی، ارمغان انقلاب از مولانا تمناعهادی،  
 مثنوی سرالاسرار از دکتر خواجه معین الدین جمیل، گلستان شرف و  
 ترانه وحشت که بالترتیب دیوان اشعار اردوی سید شرف الحسینی و رضا  
 علی وحشت است متضمن اشعار فارسی نیز می‌باشد.

در همین دوره یکی از کتابهای مهم بنام "ثلاثه غساله" بکوشش  
 و سعی بلیغ چهل ساله شادروان حکیم حبیب الرحمن مرتب شده. درباره  
 مختصات این کتاب میتوان تذکر داد که در آن اسامی کتابهای فارسی  
 و اردو و عربی در سه بخش با تفصیل اسامی مصنفین آنها که فقط در  
 بنگال تألیف یا تصنیف شده، گرد آوری شده است. نسخه خطی  
 باصفحات غیر مرتب این کتاب در کتابخانه دانشگاه داکا محفوظ مانده  
 است.

چون در این مملکت تدریس و تألیف زبان فارسی و زبان بنگلا تا  
 مدت شش قرن دوش بدوش هم رواج داشت، و ترویج و ترقی هر دو زبان  
 در یک محیط فرهنگی و ادبی بود بهمین علت واژه‌های مشترک در هر  
 دو زبان از لحاظ فرهنگ نویسی مشاهده می‌شود، علاوه بر این زبان  
 بنگلا تحت تأثیر زبان فارسی قرار گرفت و بدون کم و کاست کلمات و

وازه های فارسی بزبان بنگلا وارد شد، در این ضمن خدمات شاعر معروف زبان بنگلا قاضی نذرالاسلام را نمی توان فراموش کرد. نذرالاسلام اشعار حافظ و خیام و رومی را بزبان بنگلا ترجمه کرده و برای نخستین بار صنف غزل، اوزان و بحور، و تشیبیات و استعارات فارسی را در ادبیات بنگلا معرفی نمود. خلاصه باید گفت که رابطه فارسی و بنگلا بار دیگر توسط نذرالاسلام استوار گردید.

ناگفته نهاد که از قرن سیزدهم تا قرن بیست میلادی (قرن هفتم تا قرن چهاردهم هجری قمری) یعنی در مدت طولانی هفت قرن و سه و بعده که شرح آن در بالا گذشت، بنگال در رواج و پیشرفت زبان و ادبیات فارسی سهم بسزایی داشت و اشعار فارسی که در این خطه بوجود آمد نشان میدهد که نویسندها و شاعران در توسعه زبان فارسی از لحاظ موضوعات و مشخصات از دیگر نویسندها کان شبہ قاره عقب نهادند.

### حوالی و منابع

- ۱- صباح الدین عبدالرحمن: بزم ملوكیه، مطبع معارف، اعظم گر (ہند) ۱۹۴۹ م، ص ۱۸۴-۱۸۵
- ۲- ابو عمر منیاج الدین عثمان جوزجانی: طبقات ناصری، طبع کلکته، ۱۸۶۴ م، ص ۵۰۰
- ۳- هاشمی فرید آبادی: تاریخ مختصر هند و براک (اردو)، انجمن ترقی اردو (کراچی)، ص ۱۳۲-۳۳
- ۴- همان کتاب، ص ۴۴۵
- ۵- امیر خسرو دھلوی: غرة الکمال (نسخه خطی)، کتابخانه مرکزی، دانشگاه تهران، شماره (۵۳۳۶)
- ۶- ملا عبد القادر بدایوی: منتخب التواریخ (مجلد اول)، طبع کلکته، ۱۸۶۹ م، ص ۹۴
- ۷- محمد قاسم هندو شاد: تاریخ فرشته اگلشن ابراهیم اصلحد دوم، طبع نولکشور، لکھنؤ، ص ۳۹۰
- ۸- شیخ محمد اکرم: آب کوت، طبع فیروز و پیران، لاہور، طبع ینجم، ۱۹۶۵ م، ص ۱۲۴
- ۹- محمود شیرانی: مقاله در مجله اردو (سہ ماہی)، انجمن ترقی اردو (ہند) زانوبه ۱۹۴۳ م، ص ۹۵
- ۱۰- هاشمی فرید آبادی: تاریخ مختصر هند و براک (اردو) انجمن ترقی اردو (کراچی)، ص ۱۳۳
- ۱۱- همان مأخذ: ص ۱۲۹
- ۱۲- دکتر ظہور الدین: فارسی ادب در پاکستان (اردو)
- ۱۳- ملا عبد القادر بدایوی: منتخب التواریخ (مجلد اول)، طبع کلکته، ۱۸۶۹ م، ص ۱۵۴
- ۱۴- دکتر مطبع الامام: رساله دکتری تحت عنوان "شیخ شرف الدین احمد میری و سبیم او در نثر متصوفانه فارسی" (دانشگاه کراچی - غیر مطبوعه)
- ۱۵- نواب علی حسن خان: صحیح اگلشن، مطبع شاپیجانی، بہوپال، ۱۹۹۵ م، ص ۵۵۷
- ۱۶- غلام حسین سلیم: رباض السلاطین، طبع کلکته، ۱۸۹۸ م، ص ۱۰۶-۱۰۵
- ۱۷- هاشم رضی (باتصحیح و مقدمه): دیوان حافظ، انتشارات کاره، تهران، ۱۳۴۱ هش، ص ۹۴-۹۵
- ۱۸- علاء الدین اصفهانی معروف به میرزا ناتن: بهارستان غیبی (ترجمه انگلیسی)، از م-۱- بوره (مجلد دوم) طبع دولت اسلام (ہند) ۱۹۳۶ م، ص ۶۸۶ و ص ۴۷۶

- ۱۹- هیان مأخذ: مجلد اول، ص ۷۰، ۸۵، ۲۰۸، ۲۰۶، ۹۶ و ۲۰۳.

۲۰- سرکار، جادوشناس: تاریخ بنگال (بحواله میراث فرهنگی پاکستان) ص ۱۱۴.

۲۱- حمیداشفه: احادیث المஹین، طبع کلکته، ۱۸۷۱م، ص ۵۴-۵۵.

۲۲- صدیق حسن خان، نواب: شمع انجمن، مطبع شابچانی، بہوپال، ۱۲۹۳ھ، ص ۵، ۲۸.

۲۳- محمد علی حسن خان، نواب: صبح گلشن، مطبع شابچانی، بہوپال، ۱۲۹۵ھ، ص ۵، ۵۹.

۲۴- آدم، د: گوارش کیسپون آدم درباره آموزش، طبع کلکته، ۱۸۳۵م و ۱۸۳۸م

ملا فانی بخاری در وجه معاشر بی پیشاعت بوده، یکی کیمی دستار به مشقت بسیار بدست آورده و در بیرون شهر آن را شسته بود که ناگاه باد دست بردی نموده و دستار را ربوده . چون نظر بر آن گماشته باد خاک را در چشم او انباشته . ملا سر بر هنر روی به ره نباد . حاکم شهر از حال واقع شده و فرموده که یدزده زر بر بالای بله نباده که ملا ازان بُل هرور خواهد کرد . چون چشم ملا به ترا فتد شاید که بر گیرده و ازان نگذرد . جو ملا نزدیک بله رسید بخاطر گذراتیده که آیا کوران از بله چوکونه می گذرنده . چشم بر هم نباده از درهم گذشتند . (مذکور احباب - نثاری)

دکتر هاشم رجب زاده\*

## سنت‌ها و جشن‌های زبان و مقایسه آنها با اعیاد ایرانی

گفته‌اند که در روزگار باستان مردمی از چند تیره قومی و فرهنگی به جزایر زبان آمدند و بادیگر ساکنان اینجا آمیختند. از آن پس نیز زبانی‌ها از فرهنگ‌ها و مکتب‌های گوناگون بهره یافتند. بسیاری از عناصر معتقدات عامه را می‌توان یافت که گمان می‌رود از دیگر مناطق فرهنگی ریشه گرفته یا با فرهنگ ملت‌های دیگر مشابه است. در این میان سهم مکتب‌هایی فلسفه‌چین و آیین بودا و فرهنگ‌های چینی و کره‌ای و در درجه دوم، فرهنگ‌های غرب آسیا، بویژه ایران، و نیز اروپا، از همه مهم‌تر است.

همه اقوام و ملل متعالی پس از گذشتن از دو مرحله اقتباس و باز پردازی به سطح بالایی از فرهنگ رسیدند. در این پاره تفاوت مهیّ میان فرهنگ مادی و معنوی وجود دارد؛ فرهنگ مادی یا، باصطلاح امروز، تکنولوژی را می‌توان چنانکه هست پیوند زد، اما دریافت فرهنگ معنوی که در میان مردمی بیگانه و در اقلیمی دیگر ساخته و پرداخته شده و با آمیزه‌های درونی بیچیده و احساسی همراه است، دشوار تر می‌باشد. اما چون بازپردازی آن انجام شد، می‌توان گفت که دیگر به خود این ملت تعلق دارد. در رسوم و سنت‌ها و آیین و باورهای عامیانه نیز چنین است.

\*\*\*

آنجا، به دریا  
نشان از پری دریایی نیست  
دریا

همه موج است و موج

\* استاد مدعو دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا - زبان

این سر آغاز شعری است از ناکاها را چویا شاعر معاصر زبان، که از روزهای شاد و شیرین کودکی یاد می‌آورد و احساس شاعرانه را با خاطره قصه‌های پریان می‌آمیزد. شاعر به سپری شدن رؤیاهای پاک کودکی دریغ می‌آورد - یافتن حقیقت حال زندگی اندوه می‌بارد، اما افسانه‌های در جان او زنده اند و زندگی بخش:  
 مگر دیوانه خواهم شد که از عشق تو شب تا روز  
 سخن با ماه می‌گویم، پری در خواب می‌بینم  
 (حافظ)

قصه‌های سر زمین ما هم پُر است از افسانه پریان که بیام آور خوبی اند، نیکدلان و چوانمردان را سعادت ارمغان می‌دارند، ناتوانان را باری می‌رسانند و گرفتاران را از بند می‌ریانند. این باور به وجود دیو و پری که یکی شور بختی و تیره روزی می‌آورد و دیگری شادی و نیک فرجامی همراه دارد، بهتر از هر چیز در مراسم و جشن‌های موسومی سال نهایان است.

در پیریا و آبادیهای زبان در شب سال نو و در آستانه بهار، از پر خانه "فوکو-وا-اوچی، اوئی-وا-سوتو" را می‌شنبیم که به آواز بلند می‌گویند، یاتکرار آن، دانه‌های لوبيا به اینسو و آنسوی خانه می‌پاشند تا پلیدی را دور کنند و شادی و بخت و خوشی را به خانه بخوانند. پاشیدن لوبيا در زبان نشانه را ندین دیو و شرو بدی است. "فوکو-وا-اوچی، اوئی-وا-سوتو" که در این شب می‌گویند یعنی "بخت و شادی به در آی، دیو و پلیدی به دور". مراسم ستسو-بن از دیر باز در زبان معمول بوده و از آنجا که در سنت زبانی هم سال نو با بهار آغاز می‌شود، "ستسو-بن" نیز صورت جشن سال نو را پیدا کرده است. رسم "مامد ماکی" یا لوبيا پاشی رنگ و جلوه خاصی به این مراسم می‌دهد.

"ستسو-بن" زبان و مناسب آن و آرزویی که این هنگام بر زبان می‌آورند، یاد آور جشن چهار شنبه سوری در ایران است. در چهار شنبه سوری همه مردم از کوچک و بزرگ و پیر و جوان از روی بوته‌های سرخ آتش می‌پرند و با گفتن "سرخی تو از من، زردی من از تو" همان آرزوی دل را که بخت و خوشی برای سال نو است، بر زبان می‌آورند.

بسیاری از معاید ژاپن نیز در شب سال نو مراسم "ستسو-بُن" را، پرشور و باشکوه، برگزار می‌کنند. در خانه‌ها، جز رسم لوبيا پاشی، خوردن لوبيا را هم در این شب پرشگون می‌دانند. بر کس به شماره سالیابی عمرش لوبيا می‌خورد؛ سپس یک دانه دیگر هم، به نشانه و آرزوی خوشی و سعادت در سال نو. مانند چهار شنبه سوری در ایران، مراسم دیگری هم در ستسو-بُن ژاپن انجام می‌شود که همه برای راندن بدی و اهریمنی و تیره بختی است. در بسیاری جایا یک کله کوچک و خشک شده ماهی را با شاخه‌ای از هی راگی (درخت مقدس) در آستانه خانه می‌آویزند. در بعضی ولایات، شاخه‌ای درخت را سر شب در حیاط خانه می‌سورانند تا بلیدی را برآند و جرق و جرق آن هم حشره‌ها و حزنه‌ها را دور کند.

### نو-هیگان

"نو-هیگان" یا هفته‌های آغاز بهار و آغاز پاییز که روز و شب برابر است و به گفته سعدی: "بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار"، هنگامی است که ژاپنی‌ها به دیدار آرامگاه خانوادگی می‌روند تا به نیاکان خود احترام و سپاس نهایند و برای آرامش روح آنها نیایش کنند. این مراسم با شادی همراه است؛ زمین را می‌روبند و گل نثار می‌کنند و عود می‌سورانند و به نیایش می‌نشینند. این رسم، که گویاریشه بودایی دارد، در ژاپن با مراسم دیگر همراه شد و جلوه و شکوه و اهمیت خاصی یافته است. آیین باستانی ژاپن، شینتو، نیز به نیاکان و در گذشتگان احترام دارد تا آتجا که نیاکان و رفتگان را از قدسیان می‌دانند. هیگان به معنی "کرانه دیگر" است. در باور بودایی، مرزی که این جهان گذران را از عالم جاودان جدا می‌کند چون رودخانه‌ای انگاشته شده است که نیکان و معرفت یافتگان پس از گذشتن از آزمون این جهان رنج و تباہی، بهنه آنرا می‌بینند و به کرانه دیگر که جاودانگی و رستگاری است، می‌رسند.

این رسم از دوره شاهزاده شوه توکو زمامدار اندیشمند و اصلاحگر ژاپن سده ششم آغاز شد. جشن اصلی نو-هیگان در آغاز سال نو، اول فروردین است.

شاید ژاپن تنها کشور غیر فارسی زیان است که در آن روز آغاز بهار نوروز و تعطیل رسمی است و دمیدن شگوفه‌ها را جشن می‌گیرند. در ایران نیز جدا از آیین نوروز و آغاز فروردین و سال نو، اعتدال

پاییزی راهم در روزگار باستان جشن می گرفتند که مهرگان نام داشت . مهر، نام ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه خورشیدی است و از این رو، هنگامی را که نام روز با نام ماه یکی بود جشن می گرفتند. روز شانزدهم مهر، جشن بزرگ و فرخنده مهرگان بود.

نگه دارد این فال و جشن سده  
همان فر نوروز و آتشکده  
همان اورمزد و مه و روز مهر  
 بشوید به آب خرد جان و چهر  
(فردوسی)

نوروز را در ایران یادگار جمشید دانسته اند؛ "چون از ملک جمشید چهار صد و بیست و یک سال بگذشت ... آفتاب به فروردین به اول حمل باز آمد و جهان بروی راست گذشت ... پس درین روز که یاد کردیم جشن ساخت و نوروزش نام نهاد و مردمان را فرمود که برسال چون فروردین نوشود، آن روز، جشن کنند و آن روز نو دانند." (نوروز نامه خیام).

روز هفتم ماه اول سال را زبانی ها "نانا گوسا" یا "هفت گیاه" می گویند و رسم بود که در این روز، در پایان جشن سال تو، مردم همه به صحراء می رفته و هفت سبزی خوردنی می چینند. این رسم از بسیاری جهات بویژه به صحراء رفتن و تماسای دشت و دمن و سبزه چیندن، مانند سیزده نوروز ایران است . در شعر زبان از نانا گوسا بسیار یاد شده است . اما اتخاذ تقویم اروپایی از سال ۱۸۷۳ در زبان که شروع سال و ترتیب ماهها را برابر سال میلادی کرد، جلوه و مناسبت بسیاری از جشن‌های سنتی زبان را کاست .

جلوه دیگری از مواسم سیزده بدر ایران در جشن باز زبانی رامی توان در مراسم نو-بن دید .  
نو-بن

نو-بن ریشه سانسکریت دارد و این جشن از آیین بودا مایه گرفت و در قرن هفتم به زبان آمد. گفته اند که روزگاری مردی در هند می زیست و او شبی در خواب دید که مادرش در دنیا پس از مرگ از گرسنگی رنج می برد، اما همانکه او کاسه ای خوردنی پیش مادر نهاد، آن کاسه یکارچه آتش شد. پسر و فادر چون بیدار شد به تکابو افتاد و از راهبان راه و چاره خواست و آنها گفتند که عذاب مادرش پس از مرگ

برای گناهانش در این جهان است و تنبیارحمت بودا می تواند او را نجات دهد. پسر به نذر و نیاز پرداخت و آیین نیایش بزرگی روز یازدهم ماه هفتم سال برپا ساخت و در نتیجه، مادر او آمرزیده شد و از رنج ریایی بیافت. رسم نوبه بُن از اینجا آغاز شد.

ژاپنی با عقیده دارند که در این روز روح در گذشتگان به خانه ها شان باز می آید، پس در خانه ها فانوس می اویزند تا ارواح به آن نشان خانه خود را ببایند. مردم در این روز، برای نثار به نیاکان، میوه و گل و شیرینی و خوردنی بسیار تهیه می بینند و از دوستان و میهمانان بذیرائی می کنند. جلوه دیگر این آیین، "بن - لودوری" یا رقص بُن است که شادی آفرین ترین بخش و اوج شور و سرور جشن است. مردم از پیر و جوان وزن و مرد در معابد بودایی و شینتو گرد می آیند و شب را بالاواز و موسیقی می گذرانند.

مراسم نوبه بُن با آیین تورو-ناگاشی پایان می گیرد. برای بدرقه روح نیاکان که پس از سرکشی به خانه و خانواده و دیدن یاد بود خود و شادی بازماندگان، اینک باز می گرددند، قابق ها یا شناسورهای چوبی کوچک به انواع نقش و رنگ و نگار می سازند و می آرایند و در آن میوه و شیرینی می گذارند و شمع می افروزنند و شامگاه در میان رودخانه رها می کنند یا در کرانه دریا به دست امواج می سارند. صدبا و هزاربا شمع و فانوس شناسور که در سکوت و سیاهی شب بروی موج ها می رود، و تصویر آن در آیینه آب، منظره بدیع و گیرایی می سازد. ژاپنی های سنت پرست می کوشیده اند که این آیین زیبای بدرقه روح نیاکان حتی برگزار شود؛ همچنانکه در خانواده های ایرانی، مادران و بزرگان اصرار دارند که در روز سیزده نوروز و به نشانه پایان خوش جشن نوروزی و آغاز روزهای خوب سال، دسته های گندم و گیاهی که سبز کرده اند به صحرابرده و به آب روان انداخته شود.

### تانا باتا

در همان ماه هفتم آیین دیگری برگزار می شود که با افسانه های ساخته شده در باره ستارگان و بلور مردم به سرگذشت ماه و خورشید و گردونه های آسمان آمیخته، و آن جشن "تانا باتا" در روز هفتم ماه هفتم است. این آیین تا چندی پیش یکی از بنج جشن بزرگ سال بود.

در ژاپن نیز، مانند ایران، ستارگان شخصیت افسانه ای و سرنوشت ساز دارند. ادبیات ایران از دیری تیر (عطارد)، چنگ نوازی زهره

(ناهیید)، بد دلی کیوان (از حل) و ستمگری بهرام (مریخ) سخن بسیار دارد. در "ویس ورامین" فخر الدین گرگانی، در وصف ویس می خوانیم:

زیشانیش تابان تیر و ناهید  
زرخسارش فروزان ماه و خورشید  
چو بهرام ستمگر چشم جادوش  
چو کیوان بد آین زلف هندوش  
لبان چون مشتری فرخنده کردار  
همه ساله شکر بار و گهر بار

افسانه‌های ژاپن می‌گوید که آسمان میان دو دلداده، جوان چوبان و دختر بافنده، جدایی انداخت و این دو ستاره را در دوسوی راه شیری یا "آمد نو گاوا" جای داد تا از دوری هم بگدازند و ایندو فقط در یک شب سال، شب هفتم ماه هفتم، به هم می‌رسند و باز برای یک سال دیگر جدا می‌مانند. در شعر و ادب ژاپن از افسانه جدایی این دو ستاره فراوان یاد شده است.

### ماتسُوری

ماتسُوری نمونه جشن‌های قدیم و اصیل ژاپن است. این جشن بشادی بیرون آمدن آماته - راسو - لو - می - کامی، البه آفتاد، از غاری که از آزار برادرش به آنجا پناه برده بود، بربا می‌شد. ماتسُوری به معنی نیایش است، و جشن "شینتو"، آیین باستانی ژاپن، را برای نیایش به "کامی" یا معبد این آیین نیز ماتسُوری می‌گویند. پیشتر معابد شینتو هر یک موسوم خاصی در سال برای برگزاری "ماتسُوری" دارند. این جشن یک سال در کاخ امپراتور هم بربا می‌شد. باع و حیاط معبد را با فانوس‌ها و چراغ‌ها می‌آرایند. جشن و نیایش هنری‌دار روز انجام می‌شود، اما در شب نور فانوس‌ها در فضای ساده و سکوت شکوهمند معبد شینتو جذب‌های خاصی دارد.

### توجی

سخنی کوتاه هم از شب یلدا باید گفت که ژاپنی‌ها هنوز سنت و آیین قدیم آنرا نگذاشته‌اند. این شب آغاز زمستان است و هنگامی که آفتاد به دور ترین نقطه فرود خود در نیمکره شمالی می‌رسد. ژاپنی‌ها شب یلدا، بلند ترین شب سال، را گرامی می‌دارند و آغاز نزدیک شدن آفتاد و بلند

شدن روز را جشن می‌گیرند. این هنگام خاصه برای کشاورزان فرخنده است زیرا که نوید گوم تر شدن آفتاب و روییدن گیاه و درخت را می‌دهد. مردم در این شب مراسم گوناگون دارند؛ در حوضچه حمام که قاج بای نارنج در آن انداخته اند، تن می‌شویند و عقیده دارند که این کار آنها را تندrst می‌دارد و از سرما خوردن جلو می‌گیرد. در ایران به خوردن میوه و بوبه خربزه، در این شب برای تندrst بودن در زمستان و دور ماندن از سرما خوردگی باور دارند. در زاین نیز توجی را با میوه و خوردنیهای گوناگون جشن می‌گیرند و دوستان و نزدیکان را هم میمیهان می‌کنند و از بلندی این شب گله ای ندارند، چنانکه حافظ داشت:

گفتمش زلف چو زنجیر به تاب از بی چیست  
گفت حافظ گله ای از شب پلدا می کرد

سخن و لفظه علیکم السلام مدنی این را در کتاب "ایران" نیز آوردند.  
شروع مالکیت در این فصل از سیاست روحانی و مذهبی است و گذشت  
نهایت این فصل را در پایان آن به مکالمه خاتمه می‌کند که شرط این فصل  
از مفاد کار اینست که پدر من گردند قانون یا باشتوپری جویی تکه ای داشته باشی  
برای اینکه درینگ و نگار عی مبارزه کرد و در این مورد در پیشنهاد  
کلیه اینها را شجاع ای را بخواهد ملکه ای داشتند و ملکه ای داشتند

در زاين رسم "چوکيسي" (نگريستان ماه) در شب پانزده هم ماد هفته سال قمری (در فصل پاييز به تقويم خورشيدی) در دوره آشي گاگي ۱۵۷۳ - (۱۳۳۶) آغاز شد - اين رسم از چند آمد - مردم در اين شب سبزباد بخته مانند لوبيا سيز و سبب زميني شرين با شيريشي برتعجب، شراب برجع ركل هاي وحشني درسبيدي مي چينند و شار آسمان مي گشند - اين هاربرروي سبز کوتاهي در ايوان خانه مي گذازند و آنجا به نهاشاي ماه تمام مي نشيستند - به يجهه ها مي گويند كه روي ماه خرگوشی تشنسته است - درباره اين خرگوش و رفتنش به ماه نيز داستانيابي ساخته اند - (تاریخ زاين - هاشم جي زاده)

پروفسور محمد ولی الحق انصاری 'ولی'

رئیس بخش فارسی دانشگاه لکهنو - لکهنو - هند

### ای شعرم

ای جگر پاره من، ای شعرم !  
زاده پاک مریم تخیل !  
عیسی عصر و خضر گمراهان !

حیف عاری استی زآن همه چیز  
که زحسن کلام پندارند

نی تو آینه دار حسن بتان  
نی تو عکس جمال خوشرویان  
نی سخنیای دلبران در تو  
نی بر از ذکر گیسو و رخسار  
نی اشارات غنج محبویان  
نی تو سرمایه دار ذکر وصال  
نی سخنگوی درد هجر و فراق

ملتفت نیستی به میخانه  
متنفر زدخت رز هستی  
نی تو مذاح ساقی مه وش  
نی کنی شوخی ای زمع بجه ای  
نی حکایات میکشان در تو  
نی هوس بیشگی رندانه

نی تو خوانی فسانه فرهاد  
نی زشیرین حکایتی داری  
نی سرابی فسانه مجمنون  
نی به لیلی تو التفات کنی  
نی به وامق علاقه ای داری  
نی په عذراست میل خاطر تو

نی ستایش کنان اهل دَوَلَ  
نی به کار توانگران مَدَاحَ  
نی شاخوان حکمرمایان  
مدح خوان نی به سروران جهان  
نی به پیش شهان نگون ساری  
نی زنیروی آمران مرعوب

-

نی در اظهار امر حق خاموش  
مصلحت بین نه پیش سرداران  
نی مصاحب به بارگاه حشم  
نی تملق به جور ورزیده  
نی ز آشوب و فتنه ترسیده  
نی به پیش ستمگران لوزان  
پند و وعظ و تصوف و عرفان  
عمق اندیشه و تکامل فکر  
بندهش چست و شوکت الفاظ  
لطف معنی، بلندی تخیل  
طرز اظهار و طرفگی بیان  
جنس کاسد شدند این بهمه چیز

-

ای جگر پاره من ای شعرم  
زاده باک مریم تخیل  
عیسی عصر و خضر گمراهان  
ای دل من توداری این همه چیز  
که به بازار جنس کاسد اند  
باش در دل، برون میابرب  
که ترا پیش ناکسان خوانم

-

حسین کاظمی "شاد"

من آنم

من بندۀ مصالح دل خواه نیستم  
 طوری که کامگار شوم، آه، نیستم  
 بیشانیم فرود نباید به پیش کس  
 زایین بندگی هله آگاه نیستم  
 مکر و فریب را ندهم راه در جیات  
 از دودمان شیرم، و روباء نیستم  
 مستغفیم زاهل دَوَلَ وز شکوه شان  
 خواهان لطف شاه و شہنشاه نیستم  
 درویش بی نیازم و منت نمی کشم  
 مرعوب سطوط و حشم و جاه نیستم  
 از جور انقلاب زمانه مرا چه باک  
 دارای قصر و صاحب بنگاه نیستم  
 هر روز بیش و کم نشوم در فضای دهر  
 خورشید وضع هستم و چون هاه نیستم  
 قصر امید گرچه پلند است، باک نیست  
 بایای لنگ و بازوی کوتاه نیستم  
 روزی رسم به منزل و بابم مراد دل  
 پایم به گل فرو، ولی گمراه نیستم  
 شاهینم و های جهان زیر بال من  
 کوته نظر چو غوک ته چاه نیستم  
 در بحر معرفت در معنی کنم تلاش  
 بر روی آب مثل پرکاه نیستم  
 شوریدگی طبع نه فرصت دهد مرا  
 هستم ولی گبهی بخود و گاه نیستم  
 هستم ولی چو برتو خورشید ذوالجلال  
 باور کنید، بیش ازین والله نیستم

رئیس نعمانی - لکهنو

غزل

مپرس قصه عهد صنم پرستی ما  
 صنم پرستی ما شد و بال پستی ما  
 بسر رسید مگر کار حادثات جهان ؟  
 که حشر تازه‌ای خواهد فسانه، مستی ما  
 به فیض خاک نشینی عزیز دلهایم  
 چه رشکها که بلندی برد به پستی ما  
 مدام نرگس مستانه ات به خاطر بود  
 رهین باده نشد هیچ گاه مستی ما  
 گمان مبرز حد زلف تو شویم بروون  
 که دل گرفته ضهانت زیبای بستی ما \*

هنوز دام فریب جمال می چینی  
 مگر ندیده ای احوال پاشکستی ما \*

”رئیس“ ناز بتان از وفای ما افزود  
 شد آزمایش ما آینه پدستی ما

\* اشاره لطیف است به پاشکستگی سوابنده که در سال گذشته رخ داده بود - داشت .

حسینین کاظمی "شاد"

پیام مشرق - اقبال کا فارسی لفظی ملود

### غزل

مُهَرْس قصَّهِي غُمنَاهِي خُود پُرسْتِي ما  
 زَخُود پُرسْتِي ما شَد زَوَال بُسْتِي ما  
 چَرا تو عَاشَق دِيوانِهِ اي شَدِي اي دُوستِي  
 مَگَر نَدِيدِه اي انجام دل شَكْسَتِي ما  
 چَگُونَه خُود سَر و خُود خَواه و خُود سَتا هَسْتِيم  
 بِهاعِيان شَدِه از آينَه بَدْسَتِي ما  
 ہَمِيشَه لَرَزَه بُوانَدَام سَرْكَشَان اَفْتَد  
 بِيَيِن چَه واجَد نِيرَوَسْت زِيرَدْسَتِي ما  
 فَلَك ہَمِيشَه خَمِيدِه اَسْت بِهَر پَابُوسِي  
 بَلَند بَود زَافِلاَك زَانَكَه بَسْتِي ما  
 اَسِير حَلقَهِي عَشَقِيم و شَاه خَوبَانِيم  
 رَهَا زَبَند غَلامِيَسْت بَاهِ بَسْتِي ما  
 نَگَار ما شَدِه رِنْجُور و رَفَت از بَر ما  
 نَمُود دَسْت دَعَا رَا درَاز دَسْتِي ما  
 مَگَر رَقِيب نَگَشَتِه اَسِير درَد فَرَاق  
 كَه بَسْت سَرخُوش و شَادَان زَغَم نَوْسَتِي ما  
 بَچَشم تو - كَه نَدِيدِيم جَام مَى بُرْگَز  
 رَبِيَيْن چَشم خَارِين تَوْسَت مَسْتِي ما  
 رَسِيدَه اَنَد بِمَنْزَل نَفْتَگَان بِراَه  
 چَه سُود بُرْدَه رَقِيبَان زَبا شَكْسَتِي ما  
 مَگَر زَخَانَه كَعْبَه مَراجِعَت كَرْدِيم  
 كَه باز شَبَرَه شَهْر اَسْت بَت پُرسْتِي ما  
 ذَمَد ہَمِيشَه گَل عَشَق با طَراوِت اَشَك  
 نَدِيدِه اي تو مَگَر 'شاد' غَم پُرسْتِي ما

"الله" رحمة لا نينمه

### معین نظامی


#### خزان

د میده  
بر شجر سبز حاصل امکان  
شگوفه های خزان  
سیاه چهرگی روح ناله و شیون  
رسیده  
بر گل رُخار بُرگهای جوان  
و فور کرب نهان  
فسرده خاطری طرف کوه و دشت و چمن  
گزیده  
مار ستمگار گردش دوران  
جبین غنچه زبان  
نشان زدگی حکم فراق جان زتن  
پریده  
رنگ نوای طبرسراي جهان  
سُرود ماه و شان  
گرفتگی ست چو مهرب دل عقیق یعن  
رمیده  
جوش نشاط خیال و نطق و بیان  
شعور حسن زبان  
فروع مردنی کیف فکر شعر و سخن

رحیم بخش شاہین \*

## پیام مشرق - اقبال کا فارسی دیوان

: رسم



زمانہ تخلیق

،، اسرار خودی، (۱۹۱۵ء) اور پھر،، رموز بی خودی، (۱۹۱۸ء)

کی تکمیل کر بعد اقبال منشوی،، اسرار خودی، کا تیسرا حصہ لکھنا

چاہتھے تھے۔ (۱) لیکن انھوں نے مناسب سمجھا کہ،، اسرار و رموز،

پر اکتفا کریں اور یہ ارادہ کیا کہ گوئٹھے کر جواب میں پیام مشرق

لکھیں۔ ۱۰ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو سید سلیمان ندوی کر نام مکتوب

میں اس کتاب کے آغاز تصنیف کی اطلاع دیتھے ہونے اقبال لکھتھے

ہیں :

،، فی الحال ایک مغربی شاعر کے دیوان کا جواب لکھ رہا ہوں

جس کا قریباً نصف حصہ لکھا جا چکا ہے۔ کچھ نظمیں فارسی میں

\* ولادت: ۱۳ جولائی ۱۹۳۲ء بمقام راولپنڈی۔ آثار: ۱۔ اوراق گم گشہ ۲۔ اقبال کے معاشی نظریات

ضمن ذہن میں تھیں لیکن افسوس ہے انھیں ختم کر سکا تھا۔

ہوں گی کچھ اردو میں۔<sup>(۲)</sup>

اس خط میں فرصت کی کمی اور کمال فن کر لئے مطلوبہ  
جانکاہی و جگر کاوی کی ہمت کر فقدان کا ذکر کرتے ہونے کہتے  
ہیں :

”کلام کا بہت سا حصہ نظر ثانی کا محتاج ہے لیکن اور مشاغل  
اتنی فرصت نہیں چھوڑتے کہ ادھر توجہ کر سکوں تاہم جو کچھ  
ممکن ہے کرتا ہوں۔ شاعری میں لٹریچر بحیثیت لٹریچر کر کبھی  
میرا مطہر نظر نہیں رہا کہ فن کی باریکیوں کی طرف توجہ کرنے کرے  
لئے وقت نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ خیالات میں انقلاب پیدا ہو  
اور بس۔ اس بات کو مدنظر رکھ۔ کر جن خیالات کو مفید سمجھتا  
ہوں ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا عجب کہ آئندہ  
نسلیں مجھے شاعر تصور نہ کریں۔ اس واسطے کہ آرٹ غایت درجہ  
کی جانکاہی چاہتا ہے اور یہ بات موجودہ حالات میں میرے لئے  
ممکن نہیں۔<sup>(۳)</sup>

اس موقعہ پر اقبال کو جرمی کر دو بڑے شاعروں کا خیال آیا جو  
اتفاق سر بیرسٹر بھی تھے یعنی گوئٹے اور اوہلنڈ۔ لیکن ایک کمال  
فن کی بدولت شہرت سے ہمکنار رہا اور دوسرا اس سے محروم۔  
اقبال لکھتے ہیں :

”گوئٹے تھوڑے دن پریکٹس کرے بعد ویعر کی ریاست کا تعلیمی  
مشیر بن گیا اور اس طرح فن کی باریکیوں کی طرف توجہ کرنے کا  
اس سر پورا موقع مل گیا۔ اوہلنڈ تمام عمر مقدمات پر بحث کرتا رہا  
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت تھوڑی نظمیں لکھے سکا اور وہ کمال  
پورے طور پر نشوونما نہ پا سکا جو اس کی فطرت میں ودیعت کیا گیا  
تھا۔<sup>(۴)</sup>

۳ اگست ۱۹۲۰ء کو پروفیسر محمد اکبر منیر کر نام مکتوب  
میں رقم طراز ہیں:

..اب میں گوئی کر دیوان کر جواب میں ایک دیوان فارسی لکھے  
رہا ہوں جس کا ایک تھائی حصہ لکھے چکا ہوں، (۵)

اسی خط میں آگر چل کر „پیام مشرق“ کی مقبولیت کر بارے  
میں پیش گونی کرتے ہیں:

”مجھ پیغام ہے کہ دیوان کا ترجمہ بھی ضرور ہو گا کیونکہ  
یورپ کی دماغی زندگی کر ہر پہلو پر اس میں نظر ڈالی گئی ہے اور  
مغرب کر سرد خیالات و افکار میں کسی قدر حرارت ڈالنے کی  
کوشش کی گئی ہے۔“ (۶)

یکم جنوری ۱۹۲۳ء کو اقبال کو „سر“ کا خطاب دیا گیا تو  
> جنوری کو انکر اعزاز میں معززین لاہور نے استقبالیہ دیا۔ اقبال نے  
اپنی تقریر میں بتایا کہ وہ جرمن شاعر گوئی کر جواب میں „پیام  
مشرق“ لکھ رہے ہیں۔ (۷)

معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے فروری ۱۹۲۳ء میں „پیام مشرق“ کو  
مکمل کر لیا تھا۔ کتاب کی تکمیل پر مسودہ چودھری محمد حسین  
نے تیار کیا اور کتابت کر لئے دے دیا۔ ۸ مارچ ۱۹۲۳ء کو اقبال نے  
مولانا گرامی کو کتابت اور اشاعت کر بارے میں یون اطلاع دی  
„پیام مشرق“ کا تکمیل کر لکھ رہا ہے دو ماہ میں شاید چھپ جائز گا۔ (۸)  
کتابت مکمل ہو گئی تو کتاب اشاعت کر لئے دے دی گئی۔ اس موقع  
پر علامہ اقبال نے مولانا عبدالحاج دریا بادی کر نام مکتوب محررہ  
> اپریل ۱۹۲۳ء میں بتایا :

”پیام مشرق اپریل کر آخر تک شائع ہو جائز گا۔ چند ضروری  
نظمیں ذہن میں تھیں لیکن افسوس ہے انھیں ختم نہ کر سکا۔ فکر

روزی قاتل روح ہے۔ یکسوئی نصیب نہیں۔ ان سب باتوں کرے علاوہ  
والد مکرم کا اصرار تھا کہ جتنا ہو چکا ہے اسے شائع کر دیا جائے۔”

(۹)

مولانا سید سلیمان ندوی کرے نام ۱۳ مئی ۱۹۲۳ء کرے مکتوب  
میں ”پیام مشرق“ کرے بارے میں لکھا :  
”گوئٹھ (شاعر جرمنی) کرے ”مشرقی دیوان“ کرے جواب میں میں نے  
ایک مجموعہ فارسی اشعار کا لکھا ہے۔ عنقریب شائع ہو گا۔ اس  
کرے دیباچر میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ فارسی لٹریچر نے  
جرمنی لٹریچر پر کیا اثر کیا ہے۔“ - (۱۰)

مہاراجہ کشن پرشاد شاد کرے نام ۱۸ مئی ۱۹۲۳ء کرے خط سے  
معلوم ہوتا ہے کہ ”پیام مشرق“ مئی ۱۹۲۳ء میں زیور طبع سر آراستہ  
ہونی تھی۔ (۱۱)

اس طرح وہ ادبی شاہکار جس کا آغاز ۱۹۱۶ء میں ہوا تھا چہ  
سال کی جانکاہ دماغی مشقت کرے بعد منظر عام پر آیا جس نے نہ  
صرف ”مغرب میں پہنچ کر وہاں کی علمی فضا میں ہلچل پیدا کر  
دی“ (۱۲) بلکہ مشرق میں بھی شرف قبولیت حاصل کیا۔ بر صغیر پاک  
و ہند میں فارسی شعر و ادب کی طرف زیادہ رجحان نہ ہونے کے  
باوجود پیام مشرق کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا جس کے نتیجے میں صرف  
آٹھ نو ماہ کے بعد مارچ ۱۹۲۳ء میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنا  
پڑا۔ دوسرے ایڈیشن میں کئی ایسی نظمیں شامل کی گئیں جو پہلے  
ایڈیشن میں شامل ہونے سے رہ گئی تھیں اور بعض نظموں کو کتاب  
سے نکال دیا گیا۔ (۱۳)

### گوئٹھ

کتاب کرے متن پر گفتگو سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ گوئٹھ

کا کچھ تعارف کرا دیا جائز۔ گوئٹھ (Johann Wolfgang Von Goethe) ۲۸ اگست ۱۷۴۹ء کو جرمنی کے شہر فرینکفرٹ (Frankfurt) کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک وکیل تھا اور شاہی مشیر کے عہدے پر فائز رہا تھا، مان شہر کے میثر کی بیٹی تھی۔ اس نے ۱۶ سال کی عمر تک گھر پر انجیل، کلاسیکی ادب، اطالوی، عبرانی اور انگریزی زبانوں نیز موسیقی و نقاشی ایسے فنون کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد لیپزگ یونیورسٹی (Leipzig University) میں قانون کی تعلیم حاصل کی لیکن اس دوران میں اس کی توجہ اکثر و بیشتر فلسفہ و ادب کی طرف مبذول رہی۔ اس نے ٹیمبا اور طب کی تعلیم بھی حاصل کی اور اس ضمن میں بعض اہم انکشافات اس سے منسوب کئے جاتے ہیں۔ ۱۷۷۳ء میں اس کی کتاب درتھر کی داستان غم (Werthers Leiden) شائع ہوئی۔ اس زمانے میں اس نے اپنی مشہور ڈرامائی نظم فاؤست (Faust) لکھنی شروع کی جو اس کی وفات سے ایک سال پیشتر ۱۸۳۱ء میں مکمل ہوئی۔ گوئٹھ کی یہ تصنیف جرمن ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے جرمنی کو بہت متاثر کیا۔ جرمنی کے لوگ اس کتاب کو الہامی تصور کرتے ہیں۔ اس کی دوسری اہم تصنیف ویست اسٹلشر دیوان (West Ostlicher Divan) یا „دیوانِ غربی و شرقی“ ہے جو ۱۸۱۹ء میں منظر عام پر آئی اور جس کو علامہ اقبال نے کہیں مشرقی دیوان اور کہیں مغربی دیوان لکھا ہے۔ گوئٹھ ۲۲ مارچ ۱۸۳۲ء کو فوت ہوا اور ویمر (Weimar) میں دفن ہوا۔<sup>(۱۳)</sup>

گوئٹھ جرمنی کے تین بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے جن میں اس کے پیشوں هرڈر (Herder) اور شلر (Schiller) بھی شامل ہیں۔

## گوئٹھے و اقبال

علامہ اقبال گوئٹھے کرے بہت معرف تھے - انہوں نے گوئٹھے کو مرزا غالب کا ہمنوا قرار دیتھے ہونے کہا ہے : ۱۵ آہ تو اجڑی ہونی دلی میں آرامیدہ ہے (۱۵)  
 گلشن ویسر میں تیرا ہمنوا خوابیدہ ہے  
 ۱۶ چوہدری محمد حسین نے „بیام مشرق“ کرے دیباچھے میں انہوں نے گوئٹھے کو „جرمن حکیم حیات“  
 کر لقب سر یاد کیا ہے - (۱۶) ۱۷ بیام مشرق میں ایک مقام پر اس سرے اپنی محبت واردات کا  
 اظہار یوں کرتھے ہیں :

صبابہ گلشن ویسر سلام ما برسان  
 کہ چشم نکته وران خاک آن دیار افروخت (۱۷)  
 چوہدری محمد حسین نے „زبور عجم“ پر اپنے مقالے میں اقبال کا یہ  
 قول نقل کیا ہے : I wish Goethe had read this Book  
 یعنی کاش گوئٹھے اس کتاب (زبور عجم) کو پڑھتا۔ (۱۸) یہ گوئٹھے کی  
 قدردانی کر اظہار کا یقیناً ایک اچھوتا اسلوب ہے۔

اس سرے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال گوئٹھے کو کس قدر احترام کی نگاہ سے  
 دیکھتھے تھے - گوئٹھے سرے اقبال کی ارادت کا ثبوت اس سرے بڑھ کر اور  
 کیا ہو سکتا ہے کہ بیام مشرق کی نظم، جلال و گوئٹھے میں اقبال نے  
 اسرے، نکته دان، آلمانی، (نکته دان، آلمانی) کرے لقب سرے یاد کیا ہے  
 اور اسرے، نیست پیغمبر ولی دار کتاب، کہہ کر پکارا ہے۔ یہاں  
 اقبال نے اپنے مرشد معنوی کی زبان سرے گوئٹھے کو خراج عقیدت پیش  
 کیا ہے۔ گوئٹھے رومی کو، دانائی اسرار قدیم، کہتا ہے، اسرے اپنا ڈرامہ  
 فاؤسٹ بڑھ کر سناتا ہے اور رومی اس کی حقیقت شناسی کی  
 تحسین کرتا ہے۔ (۱۹)

اقبال گوئی کر کیوں معترف ہیں اور اسرع اپنی عقیدت و ارادت کا  
 مرجع کیوں خیال کرتے ہیں ؟ اس کا ایک پس منظر ہے چوہدری  
 محمد حسین اس ضمیں میں رقم طراز ہیں ۔ نپولین کر حملوں اور  
 اس کی حکومت کر جبرو استبداد سر پامال ہونے پر جب جرمی کی  
 حالت اس قدر نا گفتہ بہ ہونی کہ گوئی کر پرسوزو حکمت آموز  
 ترانوں پر کان دھرنا لوگوں کو مشکل ہو گیا اور خود گوئی کر لئے  
 ایسی حکمت کا سیدھی اور صاف زبان میں سکھانا آسان نہ رہا تو  
 قدرت نے ایک نرالی طریق سے اپنے فرستادہ کی مدد کی اور جو کام  
 اس سے اس حالت میں بھی لیتے رہنا مقصود تھا وہ مسلسل لیتی رہی  
 اپنے اصلی اور قدرتی مغربی انداز میں لکھنے سے گوئی اکٹائی ہی کو  
 تھا کہ ۱۸۱۲ء میں جرمی کر دوسرا ادیب و شاعر نے دیوان حافظ کا  
 ترجمہ جرمن زبان میں شائع کر دیا۔ گوئی نے جو نہیں اسرع دیکھا اور  
 پڑھا حافظ کا ترجمہ باوجود اس امر کہ اب اس کے ساتھ فارسی  
 زبان کی وہ شیرینی اور سحر طرازی نہ رہی تھی اس کی طبیعت پر  
 فوراً اثر کر گیا اور اس نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ وہ خیالات  
 جن کا اظہار آب پُرانے انداز میں مؤثر نہیں رہا، حافظ کے تبع میں  
 جادو کا اثر دکھانے گا۔ جدت طرز ادا بجائے خود لوگوں کو جانفزا  
 نغموں کی طرف کھینچ گی اور جو مقصد فوت ہوتا نظر آتا تھا زندہ  
 تر ہو کر قوم کر مردہ افراد کو زندہ کرتا رہے گا۔ گوئی نے نہ صرف  
 حافظ سے غزل کا انداز ہی لیا بلکہ سینکڑوں لطیف اور نازک معنی و  
 حقائق استفادہ کئے۔ مگر پھر بھی خدماصفا کی حد سے آگر نہ  
 بڑھا۔ مضامین اور ان کی روح وہی قائم رکھی جو اس کی اپنی  
 تھی۔ ترجمہ و سوز حافظ سے لیا اور پھر ایک بار قوم کو نئے سرور  
 اور نئے انداز سے تپایا کہ حیات حق کے حصول کر لئے ان میں

پہلی سر دوگنی سعی و قوت عمل کی آگ بھڑک ائھی - پانچ چھر  
برس میں یہ نظمون یا غزلوں کا مجموعہ تیار ہوا ،،ویسٹ استلشہر  
دیوان» یا ،،دیوانِ مغربی و مشرقی» کرے نام سے اسے موسوم کیا اور  
۱۸۱۹ء میں مکمل و مرتب کر کر شائع کر دیا - کتاب کرے اس نام میں  
جو مفہوم مضمود تھا وہ بھی یہی تھا کہ مغرب اس وقت قسمت کرے  
چکروں میں ہے، فساد و فتنہ کا گھر ہے، بداخللاقی و بدنظمی میں مبتلا  
ہے، ظلم و استبداد کرے تیروں کا نشانہ ہے اور اپنے همدرد مشرق کی  
طرف اپنے غم و اندوہ کی داستان اسی کرے انداز بیان میں سنانے کو  
متوجہ ہوتا ہے۔ (۲۰)

حقیقت یہ ہے کہ گوئٹھ کرے اس مجموعہ کلام سے اس کی اسلام  
مشرق سے دلچسپی کا بھرپور اظہار ہوتا ہے اگرچہ اس زمانے میں  
یورپ کے باشندوں کے لئے اسلامی تعلیمات تک رسائی حاصل کرنا  
بوجوہ آسان نہ تھا لیکن گوئٹھ کی ہمت قابل داد ہے کہ اس نے اسلام  
کی انقلاب انگیز روح اور مشرق کے سرچشمہ ہائے فکر تک پہنچنے  
کی بوری کوشش کی اور اس میں ایک حد تک کامیابی بھی حاصل  
کی -

اقبال اور گوئٹھ میں حقیقت کی تلاش و جستجو کا مادہ غایت  
درجہ کا تھا ان کی فطرت کی اسی خصوصیت نے انہیں مغرب و  
مشرق دونوں سے آشنا کیا - گوئٹھ مغرب میں تھا اور اس نے مشرق کی  
طرف ذہنی اور روحانی سفر کیا - اقبال مشرق میں تھا اور اس نے  
مغرب کے عالم افکار کی سیاحت کی اور اس سے بصیرت انداز ہوا -  
چوہدری محمد حسین نے دونوں شاعروں کو دنیا کرے کامل ترین  
شاعروں کی صفت میں جگہ دینے ہوئے بجا طور پر لکھا ہے -،،وھی ،  
الہام شعر و حکمت کی جو تعریفیں لکھی گئی ہیں ان کے جائز

بغیر گوئی اور اقبال کا سمجھنا یا ان کی شعر و سخن کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا محال محسن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس قدر ملهم یا حکیم یا شاعر دنیا میں ایسے ہونے جو اس معیار پر صحیح اتر سکتے ہیں اور اصل الہام یا حکمت یا شعربیت ان کی حصے میں آئی۔ الگ ان خواص کے مالک شاید بہت نکل آئیں۔ ہماری ناقص رائے میں ایسے بہت کم ہوں گے جو ان ہر سہ کمالات کے مالک ہوں۔ شکسپیر، ڈائٹ اور مولانا روم کے سوا اگر کوئی اور دو ہستیان اس شمار میں آ سکتی ہیں تو اٹھارویں صدی میں گوئی تھا اور بیسویں میں اقبال۔ (۲۱۰)

ان دونوں شاعروں میں بعض اور پہلوؤں سے بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ دونوں نے قانون کو پیشہ بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے بر عکس دونوں کا ہمه تن انہماں کے شعر و ادب میں تھا۔ دونوں جدت پسندی کے ساتھ قدیم شعرا کی کاوشوں سے استفادہ ضروری سمجھتے تھے دونوں شاعر کلام الہی سے بصیرت انداز ہونے۔ گوئی انجیل سے اور اقبال قرآن پاک سے۔ دونوں کو اپنی زندگی میں قدر دان مل گئے، گوئی کو ڈیوک آف ویمر جبکہ اقبال کو نواب بھوپال وغیرہم کی توجہ حاصل ہوئی۔

۱۸۳۰ء تا ۱۸۶۰ء کا دور یورپ کی مختلف حکومتوں کی باہمی چیقلشوں سے بھرا یڑا تھا۔ ایک طرف آسٹریلیا کی تخت نشینی کی جنگ کا سلسلہ اور دوسری طرف صنعتی انقلاب کا شور و غوغاء ایسے امور تھے جنہوں نے برابع اعظم کی فضا میں مسلسل اضطراب پیدا کر رکھا۔ ان حالات سے جرمنی بھی متاثر ہوا۔ ہندوستان میں ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے تحریک آزادی کا عمل آغاز ہو چکا تھا جس نے بعد میں سیاسی جدوجہد کی صورت اختیار کر لی۔ اسی طرح

۱۹۱۳ء میں پہلی جنگ عظیم نے برصغیر کی فضائی کو بڑی حد تک مکدر کر رکھا تھا۔ بنا بریں گونئی اور اقبال کی سیاسی ماحول میں بھی ہم آہنگی دکھانی دیتی ہے۔ دونوں شاعر ادب برائی ادب کی مخالف اور ادب برائی زندگی کی حامی تھے اور ادب کو انسانیت کی خدمت اور زندگی کی تعمیر نو کا ذریعہ سمجھتے رہے تاہم دونوں میں کچھ اختلاف کر پہلو بھی ہیں۔ خود اقبال نے، "پیام مشرق" میں اپنا اور گونئی کا موازنہ کرتے ہوئے موافق و مخالف پہلوؤں کی طرف یوں اشارہ کیا ہے:

پیر مغرب شاعر المانوی

آن قتیل شیوه هانع پہلوی  
بست نقش شاهدان شوخ وشنگ  
داد مشرق را پیامی از فرنگ  
در جوابش گفته ام پیغام شرق  
ماه تابی ریختم بر شام شرق  
تا شناسانع خودم خودبین نیم  
با تو گویم او که بود و من کیم  
او زافرنگی جوانان مثل برق  
شعله من از دم پیران شرق  
او چمن زادے چمن پروردہ  
من دمیدم از زمین مردہ  
اوچو بلبل در چمن فردوس گوش  
من بصرحا چون جرس گرم خروش  
هر دو دانانع ضمیر کائنات  
هر دو پیغام حیات اندر معات

هر دو خنجر صبح خند ، آئینہ فام  
 او برهنه من هنوز اندر نیام  
 هر دو گوهر ارجمند و تابدار  
 زاده دریانے ناپیدا کنار  
 او زشوخی در ته قلزم تپید  
 تاگریبانِ صدف را بر درید  
 من با آغوش صدف تایم هنوز  
 در ضمیر بحر نایابم هنوز (۲۲)  
 اقبال اور گوئٹھی میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اقبال احیانے  
 اسلام کرے حامی ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی بھائی چارے کے داعی  
 بھی ہیں جبکہ گوئٹھی مشرق دوستی کے باوجود اپنے روایتی تعصُّب اور  
 نسلی برتری سے نجات حاصل نہیں کر سکا۔ وہ لکھتا ہے :  
 „مسلمانوں کی طرف سے کافروں کی توهین اور ہماری قوم کے  
 غلاموں کے ساتھ ان کا ناروا سلوک اس قابل ہے کہ ہم ان سے نفرت  
 کریں اور انہیں تختہ دار پر لٹکا دیں۔“ (۲۳)  
 ایک اور جگہ کہتا ہے :  
 ..کاش ادب عالیہ کی بنیادیں یونانی اور رومی لٹریچر کی سطح  
 ہی پر کھڑی کر دی جاتیں - چینی ، ہندی اور قدیم مصری ادبیات  
 بجز استعجاب انگیز ہونے کے اور کچھ نہیں - دنیا کو ان سے  
 روشناس کرانا قابل قدر ہے لیکن ان سے ہمارے اخلاقی نظام اور فنون  
 لطیفہ کر کلچر کو کسی قسم کی استعانت نہیں مل سکتی۔“ - (۲۴)  
 گوئٹھی کو مغربی شعراء میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے  
 تقریباً ایک صدی پیشتر قدیم ادبیات مشرق کا گھبرا مطالعہ کیا اور  
 اس کا انہی بھی قبول کیا۔ اس کے دیوان کے متعلق جرمن اسرائیلی

شاعر (Heine) (۱۸۵۶) رقمطراز ہے :

،، یہ ایک گلستانہ عقیدت ہے جو مغرب نے مشرق کو بھیجا ہے ..  
اس دیوان سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ مغرب اپنی کمزور  
اور سرد روحانیت سے بیزار ہو کر مشرق کے سینئے سے حرارت کا  
متلاشی ہے۔۔ (۲۵)

اقبال نے „بیام مشرق“ کے دیباچہ میں تفصیل سے اس دیوان کی  
تخلیق کے پس منظر اور ان حالات پر روشنی ڈالی ہے جو آلمانوی  
ادبیات میں تحریکِ مشرقی کے آغاز کا باعث بنے اور جس کے زیر اثر  
گوئئے نے مشرقی ادبیات سے استفادے کی طرح ڈالی۔ مشرقی شعراء  
میں سے گوئیر، خواجہ حافظ، شیخ سعدی اور فردوسی کا احسان  
مند تھا۔ فارسی ادب میں گھرے انہماں کے سبب اپنی تہذیبی  
قدروں کو نظر انداز کر کر وہ ایرانی تہذیب کی طرف متوجہ ہوا۔  
اس نے فارسیت کے شوق میں فارسی اصطلاحات مثلاً مغنی نامہ،  
ساقی نامہ، عشق نامہ، تیمور نامہ، حکمت نامہ، وغیرہ استعمال کی  
ہیں۔ اس کے باوجود وہ کسی فارسی شاعر کا مقلد نہیں۔ اس نے  
مشرقی شعراء و حکماء کا مطالعہ ضرور کیا لیکن وہ اپنی مغربیت سے  
کسی لمحہ دستکش نہیں ہوا۔ اس نے صرف انہی مشرقی حقائق  
کی طرف توجہ کی جنہیں اس کی مغربی فطرت جذب کر سکتی تھی  
اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تمدن اور فلسفہ کے لحاظ  
سے مغرب ہر طرح مشرق پر فوقیت رکھتا ہے لہذا مغرب ہی دنیا کی  
امامت اور قیادت کے منصب پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ ظاہر ہے کہ  
اقبال اپسے سلیم الطبع اور روشن فکر مسلمان دانشور کے لئے مشرق و  
مغرب کی تقسیم اور کسی ایک خطہ ارض پر بیجا فخر ایک بی معنی  
سی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ „بیام مشرق“ کے سوراق پر .. اللہ

المشرق و المغرب» (۲۶) (مشرق و مغرب الله ہی کر لئے ہے) تحریر ہے جو اُن کر نقطہ نظر کی وسعت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تاہم تاریخی اعتبار سے مشرق ہی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی وسعتوں میں خدا کر برگزیدہ بندوں نے اخلاقی تعلیم اور باطنی تربیت کی تعمیری کوششیں کیں جن کے اثرات اقصائی عالم میں پھیلے اور پھر مشرقی دنیا نے علم و ادب کے میدان میں بھی ایک طویل مدت تک بے مثال خدمات انجام دیں۔ زوال کے عارضی سائر مشرق کے روشن کردار کو انسانی نگاہوں سے زیادہ دیر تک اوجہل نہیں رکھ سکتے۔

**اقبال اور مغرب**

اقبال نے پیام مشرق لکھ کر مغرب کے غرور و تکبر پر ضرب لگائی اور مشرق کی زندگی اور ہوشمندی کا ثبوت مہیا کیا۔ علامہ کر اس کارنامے کی صحیح قدر و قیمت متعین کرنے کے لئے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ مشرقی دنیا کے دور زوال کے آغاز سے لے کر زمانہ بیداری تک صرف اقبال کی ذات ہی ہے جس نے مغرب کے مزعومہ علمی تفوق کی قلعی کھولی، تہذیبی و سیاسی استعمار کو لکھا اور اہل مشرق کے احساس کھتری کے خاتمے کے لئے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سے آگر بڑھ کر انہوں نے مغربی تہذیب کی „سست بنیادی“ کو واضح کیا جس کے پیش نظر صرف مادی غلبہ کا حصول ہے اور اس کے لئے اس نے جو غیر اخلاقی ہتھکنڈے اختیار کئے ہیں وہ خود اس کے اپنے وجود بلکہ پوری دنیا کے امن کے لئے تباہی کا پیش خیمه ہیں۔ اقبال نے یہ بھی واضح کیا کہ مغرب کے برعکس مشرق نے انسانیت کو ہمیشہ باطنی تربیت اور تہذیب نفس کی راہ دکھائی جس کے بغیر اس کا ارتقا کی منازل طرح کرنا مضر اور مہلک ثابت ہو گا۔ علامہ اقبال اس نتیجے پر محض کتابی معلومات کے

ذریعہ نہیں پہنچی بلکہ انہوں نے تین سالہ قیام یورپ (۱۹۰۵ء) اور (۱۹۰۸ء) میں اپنے گھرے مشاہدے اور افکار مغرب کے وسیع مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا اور اس دور کے اردو کلام میں واضح اشارے کئے۔ بہرحال پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) عالم انسانیت کے حق میں قیامتِ صغیری ثابت ہوئی۔ اس نے پرانی دنیا کے نظام کو بڑی حد تک تباہ کر دیا اور یہ لگام خودی کے نقصانات بھی آشکارا کر دیئے۔

لہذا قادرتی طور پر اقبال نے پرانی تہذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت کی گھرائیوں میں ایک نئے آدم کی تخلیق اور اس کے رہنمے کے لئے ایک نئی دنیا کی تعمیر کے آغاز کا شعور حاصل کیا اور یہ ضروری خیال کیا کہ اقوام مشرق کو نئے دور کے اس اہم تقاضے سے روشناس کرائیں، «بیام مشرق» کے دیباچے میں اقبال لکھتے ہیں :

„مشرق اور بالخصوص اسلامی مشرق نے صدیوں کی مسلسل نیند کے بعد آنکھ کھولی ہے مگر اقوام مشرق کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ زندگی اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے اس کی اندرونی گھرائیوں میں انقلاب نہ ہو اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود اختیار نہیں کر سکتی جب تک اس کا وہ وجود پہلے انسانوں کے ضمیر میں مشکل نہ ہو۔ فطرت کا یہ اٹل قانون جس کو قرآن انَّ اللَّهُ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ کے سادہ اور بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ زندگی کے فردی اور اجتماعی دونوں پہلووں پر حاوی ہے اور میں نے اپنے فارسی تصنیف میں اسی صداقت کو مدنظر رکھنے کی کوشش کی ہے۔“ (۲۴)

یہاں اگر یہ ذکر کر دیا جائے تو یہ جا نہ ہوگا کہ، «بیام مشرق» کے دیباچے اقبال کی نثر کا بہترین نمونہ ہے۔ اقبال نے اپنی منظوم کتابوں

میں سر صرف تین کتابوں کے دیباچہ تحریر کئے ہیں جن میں سر دو کتابوں ( اسرار خودی اور رموز بیخودی ) کے دیباچے حذف کر دیئے گئے ہیں لیکن „پیام مشرق“ کا دیباچہ برقرار رہا ۔ اس سر دیباچے میں پیش کئے گئے خیالات کی دوامی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے ۔ خیال رہے کہ یہ دیباچہ لکھنے سے پہلے اقبال نے ضروری باتیں اشارات کی صورت میں انگریزی میں لکھی تھیں ۔ (۲۸)

### پیشکش

دیباچہ کے بعد جس حصہ کتاب پر ہماری نظر پڑتی ہے وہ پیش کش ہے ۔ اقبال نے پیام مشرق کو امان اللہ خان فرمانروائی افغانستان کے حضور پیش کیا ہے جنہوں نے ۱۹۱۹ء میں امیر حبیب اللہ خان کے قتل کے بعد عنان اقتدار سنپھالی تھی ۔ ان کی تخت نشینی کے فوراً بعد برطانوی ہند کی شمال مغربی سرحد کے دونوں اطراف فوج کی نقل و حرکت شروع ہو گئی جس کا نتیجہ تیسرا افغان جنگ کی صورت میں برآمد ہوا ۔ انگریزوں نے اگرچہ درہ خیبر اور چمن میں کامیابی حاصل کیں لیکن افغان سپہ سالار جنرل نادر خان نے برطانوی افواج کوٹل کے مقام پر شکست دی ۔ آخر کار انگریزوں نے ۱۹۱۹ء میں راولپنڈی میں افغان حکومت کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا جس کی رو سے انگریزوں نے افغانستان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا ۔ کیونکہ اس معاہدہ میں امیر افغانستان کی حیثیت برابر کے فریق کی تھی اس لئے غلام ہندوستان کے مسلمان باشندوں کو افغان بھائیوں کی جدوجہد آزادی سے خاص تعلق خاطر پیدا ہوا اور انہوں نے قدرتی طور پر امیر افغانستان کی ذات سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیں ۔ علامہ اقبال بھی حالات زمانہ کی ان لہروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے لہذا انہوں نے امیر امان اللہ خان کے نام کتاب کا

انتساب کیا اور تمہید کتاب میں،، بحضور اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ خان فرمان روائی دولت مستقلہ افغانستان خلد اللہ ملکہ و اجلالہ،، کرے عنوان سرے دلی جذبات کو منظوم کیا۔ بظاہر اقبال نے یہ پیشکش ایک حکمران کرے حضور کی ہے لیکن دیباچہ میں اس کی غرض و غایت کے متعلق لکھتے ہیں:

،، اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ممالک مشرق میں ہر ایسی کوشش جس کا مقصد افراد و اقوام کی نگاہ کو جغرافی حدود سے بالاتر کر کر ان میں ایک صحیح اور قومی انسانی سیرت کی تجدید یا تولید ہو، قابل احترام ہے۔ اسی بنا پر میں نے ان چند اوراق کو اعلیٰ حضرت فرمانروائی افغانستان کے نام نامی سرے منسوب کیا ہے کہ وہ اپنی فطری ذہانت سے اس نکتے سے بخوبی آگاہ معلوم ہوتے ہیں اور افغانوں کی تربیت انہیں خاص طور پر مد نظر ہے اس عظیم الشان کام میں خدا تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو،، (۲۹)

پیشکش کے تحت اقبال نے اپنا اور گوئٹھ کا موازنہ کیا ہے انہوں نے گوئٹھ کی عظمت کا اعتراف اور اپنے جوہر ذاتی مگر اہل وطن کی قدر ناشناسی کا گلہ کیا ہے۔ ان اشعار میں اقبال نے مشرق کی مظلومیت کی داستان بیان کی ہے۔ ترکی، ایران اور مصر کے مسلمانوں کی مجبوری اور بے بسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہندی مسلمانوں کی غفلت شعراً کی طرف توجہ دلانی ہے وہ زوال سے نجات پانے کے لئے علم اشیاء اور سیاسی شان و شکوه کی بازیافت کا مشورہ دیتے ہیں۔ فرمانروائی افغانستان کو عظیم اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قبائل خسروی میں فقر و درویشی اپنانے کی تلقین کرتے ہیں اور ملت میں جذبہ عشق رسول کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ محض رسمی قسم کی پیشکش نہیں ہے۔ یہ ایک

طرح سر اس آرزو کا اظہار ہے کہ کاش وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک و قوم میں پیدا ہوئے اور ان کی قوم خود شناسی سے بہرہ ور ہوتی، اس پیشکش سے اقبال نے بالواسطہ طور پر مغرب کی استعماری روشن کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے۔ ان اشعار کی اہمیت اس پس منظر میں بڑھ جاتی ہے کہ جب ۱۹۲۳ء میں اقبال کو سر کا خطاب ملا تو بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اب اقبال بھی سرکاری ہو گئے ہیں لیکن ان اشعار میں ایک خود مختار مسلم مملکت کے حکمران کو جن محبت آمیز الفاظ میں خطاب کیا ہے ان سے یہ امر بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال „سر“، ہونے کے باوجود اسلامی اتحاد، ملی آزادی کے حصول اور غیر ملکی آفاؤں کے تسلط کے استیصال کے مقصد سے کبھی غافل نہیں ہونے۔

### کتاب کے حصے

پیام مشرق کے چار حصے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) لالہ طور: یہ حصہ ۱۶۳ رباعیات پر مشتمل ہے جو اقبال نے بابا طاهر عربیان کی پیروی میں کہی ہیں۔ ( ملاحظہ کیجئے گفتار اقبال ص ۳۳۳) بابا طاهر عربیان ( گیارہویں صدی عیسوی ) فارسی کا بہت بڑا شاعر تھا۔ اس کی رباعیات رباعی کے مخصوص وزن ( بحر هژج مثمن مریع الاجزا ) پر نہیں ہیں اس لئے بعض نقادوں نے اقبال کی رباعیات کو بھی دو بیتیاں اور قطعات شمار کیا ہے۔ (۳۰) یہ سوال اقبال کی زندگی میں بھی ائمہ تھا اس کے جواب میں انہوں نے ڈاکٹر غلام معنی الدین صوفی کے نام اپنے مکتوب محررہ ۵ جون ۱۹۳۳ء میں لکھا تھا:

... ان کو رباعیات کہنا غلط نہیں۔ بابا طاهر عربیان کی رباعیات جو اس بحر میں ہیں رباعیات ہی کھلاتی ہیں۔ ان میں

قطعات بھی داخل ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ رباعیات رباعی کرے  
مقررہ اوزان میں نہیں ہیں مگر اس کا (اس میں) کچھ مضائقہ  
نہیں ۔<sup>(۳۱)</sup>

ان رباعیات میں اقبال نے عشق، عظمت انسانی، قوت تخلیق،  
خطری پسندی، اخوت اسلامی وغیرہ موضوعات پر پُر لطف اور دلکش  
اسلوب میں طبع آزمائی کی ہے۔ ایک رباعی میں خطر جوئی و خطر  
پسندی کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں :

سکندر با خضر خوش نکتہ گفت شریک سوز و ساز بحر و برسو  
تو این جنگ از کنار عرصہ بینی بمیر اندر نبرد و زندہ ترشو<sup>(۳۲)</sup>

(۲) افکار : یہ کتاب کا ضخیم ترین حصہ ہے اور ۵۱ نظموں پر  
مشتمل ہے۔ بعض نظموں مثلاً فصل بھار، کرمک شب ناب اور حدی  
(نغمہ ساربان حجاز) وغیرہ میں اقبال نے ہیئت کرے ترے تجربی کرنے  
ہیں۔ اس حصہ میں اقبال نے انداز بدل بدل کر اپنے بلند اور عمیق  
فلسفیانہ خیالات کو پیش کیا ہے۔ عظمت آدم، تسخیر فطرت، عقل و  
خرد، زندگی و عمل، تخلیق و ارتقاء وغیرہ اس حصہ کے اہم  
موضوعات ہیں۔ بعض نظموں میں اقبال نے فطرت کرے اپنے افکار کی  
وضاحت کی ہے۔ بوئر گل، فصل بھار، نسیم صبح، کرمک شبتاب  
اسی قسم کی نظمیں ہیں۔ ان میں اقبال کی عظمت فن کا مکمل  
اظہار ہوتا ہے۔ „حکمت فرنگ“ میں اقبال نے مغربی تمذیب کی  
ہلاکت آفرینی پر نظر ڈالی ہے۔ اسی حصہ میں کشمیر کی غلامی و  
محکومی پر اظہار افسوس کیا ہے۔ „افکار“، اپنی تین نظموں کی  
بدولت یقیناً بہت زیادہ اہم قرار پایا ہے۔ جو یہ ہیں : (۱) تسخیر  
فطرت (۲) جونے آب (۳) حور و شاعر۔  
„تسخیر فطرت“ کا موضوع کائنات میں انسان کا مقام اور

خیر و شر کی آویزش ہے، تسخیر فطرت کے علاوہ اقبال نے „بال جبریل“ کی دو نظموں، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں اور، „روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے“، میں بھی اسی سے ملتے جلتے موضوع کو چھپتا ہے۔ جہاں تک، „تسخیر فطرت“ کا تعلق ہے یہ اقبال کی عظیم نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ نظم کا بنیادی خیال قدیم روایات سے مأخوذه ہے لیکن اس کی تفصیل اور انداز پیشکش اقبال کے تخیل کا کرشمه ہے۔ اس طویل نظم کے پانچ حصے ہیں پہلے حصے کا عنوان ہے، „میلاد آدم“ جس میں اقبال نے انسان کی فطری صلاحیتوں کی طرف بلیغ اشارے کرتے ہیں۔ نظم کا دوسرا حصہ، „انکار ابلیس“ کا عنوان لئے ہوئے ہے۔ اس میں ابلیس نے اپنے آپ کو خاکی انسان اور نوری فرشتوں پر ترجیح دیتے ہوئے یہ ظاہر کیا ہے کہ حیات و کائنات کی ساری رونقیں اور هنگامے اسی کے دم سے ہیں۔ یہاں اقبال نے ابلیس کی صفات کے پیش نظر جو لمحہ اختیار کیا ہے وہ ابلیس کے حال کے عین مطابق ہے تیسرا حصہ کا عنوان، „اغوانے آدم“، ہے اس میں ابلیس آدم کو بتاتا ہے کہ جنت سے دنیا کی زندگی بہتر ہے۔ حیاتِ دوام کا راز وصل کی بجائے فراق اور سکون کی بجائے اضطراب میں مضمرا ہے۔ آدم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ بہشت سے باہر آ جاتا ہے۔ آدم دنیا نے رنگ و بو کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کرتا ہے اس کائنات کا تنوع اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے اپنے سامنے جدوجہد کا وسیع میدان نظر آتا ہے۔ آدم کے ان احساسات و جذبات کو اقبال نے نظم کر چوتھے حصے، „آدم از بہشت بیرون آمدہ می گوید“، میں بیان کیا ہے۔ پانچویں حصے کا عنوان ہے، „صبح قیامت“، اس میں آدم دنیا کی زندگی میں اپنے ماحول کی تفصیل بیان کرتا ہے اور ابلیس پر اپنی برتری ثابت کر دیتا ہے۔

پروفیسر اسلوب احمد انصاری کرے بقول،، یہ نظم پانچ ابواب پر مشتمل ایک ڈراما ہے جس میں تخلیق آدم، انکار ابلیس، ترغیب گناہ اور جلوس آدم کو انتہائی تعبیر انگیز عمل کرے ذریعہ پیش کیا گیا ہے

(۳۳) -

„جوئے آب“ گوئٹر کی مشہور نظم موسوم بہ „نغمہ محمد“ (Mahomet,s Gesang) کا نہایت آزاد ترجمہ ہے۔ اس نظم کرے بارے میں پیام مشرق کرے حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ،، اس نظم میں جو دیوان مغربی سر بہت پہلے لکھی گئی اس آلمانی شاعر نے زندگی کرے اسلامی تخیل کو نہایت خوبی سر بیان کیا ہے اصل میں یہ ایک مجوزہ اسلامی ڈرامے کا جزو تھی جس کی تکمیل اس سر نہ ہو سکی۔ اس ترجمے سے صرف گوئٹر کا نقطہ نگاہ دکھانا مقصود ہے۔“ (۳۴)

اس نظم کرے بارے میں خود گوئٹر لکھتا ہے :

„اس ڈرامے کرے خاکرے نے میرے دماغ کو اپنی طرف بہت دیر لگانے رکھا کیونکہ میں حسب عادت لکھنے سے پہلے اس خیال کو نشوونما پانے کا موقع دے رہا تھا کہ فطانت ایک اعلیٰ کردار اور قوی دماغ کرے ساتھ بُنی نوع آدم پر جس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے اور وہ جن جن فوائد و نقصانات کی متحمل ہو سکتی ہے، کو منتهی طریق پر ظاہر کروں۔“ (۳۵)

دیرینہ ارادے اور طویل غوروفکر کرے باوجود گوئٹر اس ڈرامے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا لیکن یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ موجودہ صورت میں بھی یہ نظم نعتِ رسول میں ممتاز اور منفرد مقام رکھتی ہے۔ عالمی ادب اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔“ اس نظم میں جوئے آب ہی کی روائی، تُندی اور نغمہ آفرین کیفیت ہے اور علامہ

اقبال نے گوئٹھ کی فکر کو صوتیاتی تاثر آهنگ اور جوش و خروش کر جس سحر آگیں تائز بانج میں پیش کیا ہے اس نے اس نظم کو لازوال حسن و شکوه بخش دیا ہے۔ ” (۲۶)

”جونی آب“ کو پروفیسر محمد مجیب مرحوم، شیخ الجامعہ، جامعہ ملیہ دہلی نے ”محمد کا نغمہ لاہوتی“ کر عنوان سر اردو میں منتقل کیا ہے۔ نظم کا اردو روپ اور اقبال کی فارسی نظم ”جونی آب“ درج ذیل ہیں۔ اقبال نے گوئٹھ کی نظم کا تمام و کمال ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس کے تاثر کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا ہے۔

گوئٹھ کی نظم ”محمد کا نغمہ لاہوتی“

اس چشمیں کو دیکھو

جو ستاروں کی کرنوں کی طرح ہنستا ہوا

صف شفاف چثانوں میں سر نکلا

بچپن میں اسر

قدسیوں نے اس دنیا میں پالا

جو بادلوں کے پرے ہے

شباب کی تازگی اور جوش لیئے ہوئی

وہ اک خرام ناز کر ساتھ

بادلوں سر نکلتا ہے اور چثانوں کے بیچ میں

جهاڑیوں سر گذر کر مرمرین چثانوں پر گرتا ہے

اور پھر مسرت کر نعرے لگاتا

آسمان کی طرف اچھلتا ہے

وہ چوٹیوں کے درمیان دروں میں سر

ایک رنگین پتھر سے دوسرے رنگین پتھر کی طرف لپکتا ہے

اس کے قدم کو شروع ہی سر

رہنمائی کی صفت عطا ہوئی ہے  
 اور وہ اپنے بھائی بندوں کو اپنے ساتھ  
 بھا کر لے جاتا ہے  
 نیچے وادی میں جہاں اس کا قدم پڑتا ہے  
 پہول کھلنے لگتے ہیں  
 اور اس کر دم سر سبزہ زاروں میں جان پڑتی ہے  
 لیکن اسے نہ سایہ دار وادی روک سکتی ہے  
 نہ وہ پہول  
 جو اس کر گھٹنوں سر لپٹ کر محبت بھری آنکھوں سر خوشامد کرتے  
 ہیں  
 اس کا بھاؤ اسر میدان کی طرف چکراتا ہوا لے جاتا ہے  
 چھوٹے چشمے اس کر دامن سر لپٹ کر چلتے ہیں  
 اب وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا  
 میدان میں پہنچتا ہے  
 اور میدان بھی اس کی آب و تاب سر چمک اٹھتا ہے  
 اب میدان کر دریا، پہاڑ اور چشمے  
 پکار پکار کر کھلتے ہیں  
 بھائی ! اے بھائی ! ہمیں بھی اپنے رب کر پاس لے چل  
 ہمیں بھی اس کی بی پایاں گود میں پہنچا دے  
 وہ ہمارے انتظار میں گود پہنچا رہے  
 اور افسوس ! ہم اس کر مشتاق اس کی گود میں نہیں پہنچ پاتے  
 ہمیں ریگستانوں کی سوکھی ریت سوکھ لیتی ہے  
 اور سر سورج ہمارے خون چوسرے لیتا ہے  
 کوئی پہاڑی ہمارا راستہ روک کر ہمیں تالاب بنائے دیتی ہے

اے بھائی

اپنے میدان والر بھائیوں کو ، اپنے پہاڑ والر بھائیوں کو  
اپنے رب کر کے پاس لے چل  
آؤ سب کر سب آؤ

اب وہ بڑی شان سے موجین مارتا ہوا بڑھتا ہے

ساری قوم اپنے بادشاہ کر ساتھ کاندھر ملانے ہوئے چلتی ہے اور فتح  
کر ریلے میں وہ ملکوں پر اپنا سکھ بٹھاتا جاتا ہے  
جهان اس کا قدم پڑتا ہے شہر آباد ہو جاتی ہیں

اس کا بھاؤ کسی کر روکر نہیں رکتا - وہ زور و شور سے میناروں  
کی چمکتی چوٹیوں ، مرمریں عمارتوں کے پیچھے چھوڑ کر تخلیق کر  
جوش میں آگے بڑھا جاتا ہے

گویا اطلس ایک دنیا کو کاندھوں پر اٹھائی ہے  
اس کے سر پر هزاروں جہنڈے لہراتی ہیں اور سرسراتر ہیں

اور یہ سب اس کی شان و شوکت کے نشان ہیں

اس طرح وہ اپنے بھائیوں اپنے عزیزوں ، اپنے بچوں کو

ان کے رب کے پاس ، جو ان کے انتظار میں ہے

پہنچا دیتا ہے

اور وہ انھیں مسرت کے جوش میں گلے لگا لیتا ہے (۲۴)

حضور کو نوع انسانی کی بھلانی کی فکر جس طرح دامن گیر رہتی  
تھی اس کی عمدہ تصویر گوئی کی نظم میں ملتی ہے - اس کی ایک  
ایک سطر سے حضور سے محبت و عقیدت کا پاکیزہ جذبہ ٹیکتا ہے  
لیکن اقبال نے اس نظم کے تاثر کو جس اسلوب میں بیان کیا ہے اس  
کی ندرت بھی یقیناً لائق داد ہے -

سلطانوں کا رشتہ دار ہے اگر میدان جہاد سے ایسا ہے تو اس

اقبال کی نظم „جوئر آب“  
 بنگر که جوئر آب چه مستانه می رود  
 مانند کھکشان بگریبان مرغزار  
 در خواب ناز بود به گھواره سحاب  
 وا کرد پشم شوق با غوش کوهسار  
 از سنگریزه نعمه کشايد خرام او  
 سیمائر اوچو آئینه بی رنگ و بی غباره  
 زی بحر بیکرانه چه مستانه میرود  
 در خود یگانه از همه ییگانه میرود  
 در راه او بهار پریخانه آفرید  
 نرگس دمید و لاله دمید و سمن دمید  
 گل عشه داد و گفت یک پیش ما بایست  
 خندید غنچه و سر دامان او کشید  
 نا آشنائی جلوه فروشان سبز پوش  
 صحراء برید و سینه کوه و کمر درید  
 زی بحر بیکرانه چه مستانه میرود  
 در خود یگانه از همه ییگانه میرود  
 صد جوئر دشت و مرغ و کھستان و باغ و راغ  
 گفتند „ای سبیط زمین با تو ساز گار  
 مارا که راه از تنک آبی نه برده ایم  
 از دستبرد ریگ بیابان نگاه دار“  
 وا کرده سینه را به هوا هائز شرق و غرب  
 در بر گرفته همسفراں زیون و زار

زی بحر بیکرانه چه مستانه میرود

باصد هزار گوهر یک دانه میرود

دریائی پر خروش زبند و شکن گذشت

از تنگنائے وادی و کوه و دعن گذشت

یکسان چوسیل کرده نشیب و فراز را

از کاخ شاه و باره و کشت و چمن گذشت

بیتاب و تند و تیز و جگر سوز و بیقرار

در هر زمان بتازه رسید از کهن گذشت

زی بحر بیر کرانه چه مستانه میرود

در خود یگانه از همه بیگانه میرود (۳۸)

اب ملاحظہ کیجئیں گوئی کی نظم „Huri — Dichter“ کا اردو

ترجمہ اور اقبال کی نظم حور و شاعر، جس میں انہوں نے گوئی کی  
نظم کرے مطالب کو اپنے خاص انداز میں فارسی کا جامہ پہنایا ہے۔

گوئی کی نظم بہت طویل ہے، اقبال نے اس نظم کرے جواب میں  
اختصار و ایجاز سے کام لیا ہے اور گوئی کرے مرکزی خیال کو پیش  
نظر رکھا ہے اس کی تفصیلات سے اخذ نہیں کیا، گوئی کرے ہاں  
سکون کی جستجو کا جذبہ پنہاں ہے جبکہ اقبال کرے کلام میں حرکت  
و عمل کو جو خاص اہمیت حاصل ہے اس کی بنا پر وہ حور کرے  
سکونی حسن سے متاثر نہیں ہوتا۔ حسن کی تلاش و جستجو میں نہ  
اس کی نظر کو قرار ہے اور نہ دل کو سکون۔

گوئی کی نظم „حور و شاعر“

حور۔ آج میں بہشت کی نگران ہوں۔ میں تجھے یہاں آ جانے کی

اجازت کیسے دوں، تو مسلمان ہونے سے منکر ہے لیکن تو ہمارے

مسلمانوں کا رشتہ دار ہے۔ اگر میدان جہاد سے آیا ہے تو اپنی

قربانی کر اظہار کر لئے مجھے زخم دکھا اس طرح میں شائد  
تجھے پر در جنت کھول سکوں گی ۔

شاعر - اس ناز و عشوے سے مجھے مصیبت میں نہ ڈال ۔ براہ کرم  
مجھے آئے دے میں نے آدمی کی زندگی گذاری ہے چار و ناچار  
جهاد زندگی میں شریک رہا ہوں تو اپنی تیز بین نگاہوں سے  
میرے گھائل دل کا اندازہ لگا سکتی ہے ۔ میرے یہ جانکاہ زخم  
غم عشق کر ہاتھوں ہیں ۔ مگر میں معشوق کی دلداری اور  
محبت دنیا میں دل سزد نہیں ہوا ۔ میں حسن والوں کی ناز  
برداریوں اور جفاوں کا اب بھی دلدادہ ہوں ۔ مجھے آجائے دے  
اور ایسا نہ سوچ کہ تو کسی نااہل کو اجازت دے ۔ مجھے  
اجازت دے کہ میں آ کر تیری طلانی انگشت دیکھوں اور بیہشت  
جاوداں میں سال و ماہ کا حساب کروں ۔ میری حور تیری  
محبت نے مجھے مضطرب کر رکھا ہے میں جسارت کر کر  
تجھے سے پوچھتا ہوں کہ آیا تو پہلے بھی انسانوں میں رہی ہے  
میرا خیال ہے تو کونی „زلیخا“ تھی ۔ اور اس نام سے پکاری  
جانی تھی ۔

حور - شاعر ، میں عناصر اربعہ سے پاک ہوں ۔ میں „حور“ ہوں ۔  
میں تمہاری دنیا میں کیوں آؤں ؟ ہاں تم جنت میں آسکو تو  
تمہاری میزبان بنوں گی ۔ میں جب مومنین کی خدمت کرتی  
ہوں تو میرے خلوص سے فرشتوں کو حیرت ہوتی ہے اور فرشتوں  
کو انسانوں پر رشک ہونے لگا تھا ۔ میں اس خدمت سے دل  
تنگ ہونے لگی تھی کہ (حضرت) محمد مراجع کے  
دوران ماورائی افلک گئے اور واپسی پر براق روک کر یہاں  
توقف فرمایا انہوں نے مجھے اور دوسری حوروں کو زمین

والوں کا روپ اختیار کرنے کو کہا۔ ان کے حکم سے ہم نے  
نشی زندگی پائی۔ اور بے خوف و خطر اہل زمین کی خدمت  
کرنے لگی ہیں۔ اب مسلمان یہاں آتے ہیں، تو ہمیں دیکھئے  
کر اپنی زمینی محبوباؤں کو یاد کرتے ہیں۔ شاعر کیا تو بھی  
ایسا کر رہا ہے؟ میں تیری زلیخا تو نہیں ہوں مگر شاند  
اس سے مشابہ ہوں گی جب ہی تو مجھے یاد کرتا ہے۔  
شاعر۔ تو نے سچ کہا میں تیرے جمال کا عاشق اور تیری تعریف میں  
رطب اللسان ہوں، تو میری زلیخا ہو یا نہ ہو میں تجھے سے  
گزارش کروں گا کہ دروازہ کھول دے، میں شاعر ہوں اور تجھے  
عمردہ قصیدہ پیش کروں گا۔

حور۔ تو شاعری کرتا رہ مگر یہاں کے لوگ سکون چاہتے ہیں۔  
تیری شاعری ان کی نیندیں حرام کر دے گی، تو براہ کرم یہاں  
سرپلٹ جا۔ اب تک تو نہ یہاں کتنا وقت یونہی صرف کر دیا  
ہے۔

شاعر۔ تیرے حضور میں ہوں اور وقت کا احساس کروں، زہر سال و  
ماہ جو یہاں گذریں۔

حور۔ آہی جا پھر۔ اب دل لگا کر شعر کہہ — ایسی غزل  
لکھ جو „زلیخا“ کی خاطر بھی نہ لکھی ہو یہاں توہر فکر و  
اندیشہ سے آزاد اور پر امن ماحول میں ہوگا — (۲۹)

### اقبال کی نظم „حور و شاعر“

#### حور

نہ بہ بادہ میل داری نہ بہ من نظر کشائی  
عجب این کہ تو ندانی رہ و رسم آشنائی

همه ساز جستجوی همه سوز آرزوئی  
 نفسی که می گدازی، غزلی که می سرانی  
 بنوای آفریدی چه جهان دلکشانی  
 که ارم بچشم آید چو طسم سیمیانی  
 شاعر  
 دل رهروان فریبی به کلام نیش داری  
 مگر این که لذت او نرسد به نوک خاری  
 چه کنم که فطرت من به مقام در نسازد  
 دل نا صبور دارم چو صبا به لاله زارت  
 چو نظر قرار گیرد به نگار خوب و برج  
 تپدآن زمان دل من بی خوبتر نگاری  
 ز شر سtarه جویم<sup>(۳۰)</sup> ز ستاره آفتایی  
 سر منزلی ندارم که بمیرم از قرارے  
 چو زباده بهارے قدحی کشیده خیزم  
 غزلی دگر سرانم به هوای نو بهارے  
 طلبم نهایت آن که نهایت ندارد  
 به نگاه ناشکیبی به دل امید وارے  
 دل عاشقان بمیرد به بهشت جاودانی  
 نه نوای درد مندی نه غم نه غمگسارے<sup>(۳۱)</sup>

(۳) منیر باقی - اس حصر میں ۳۵ غزلیں ہیں۔ اور فرشتوں  
منیر باقی کا عنوان حافظ شیرازی کر اس مشہور شعر سے  
ماخوذ معلوم ہوتا ہے:

بده ساقی منیر باقی کہ در جنت نخواہی یافت  
کنار آب رکنا باد و گلگشت مصلح را<sup>(۳۲)</sup>

اقبال نے حافظ سے صرف یہ عنوان ہی مستعار نہیں لیا حافظ کر  
 نظریہ زندگی کرے نقاد ہونے کے با وصف اس کے فن سے بھرپور  
 استفادہ کیا ہے۔ اس حصے کی غزلوں میں وہی رعنائی، غنائیت اور  
 تاثیر ہے جو کلام حافظ کا طرہ امتیاز ہے۔ منیر باقی کی کئی غزلیں  
 حافظ شیرازی کی زمینوں میں کھی گئی ہیں۔ بعض جگہ اقبال نے  
 سعدی شیرازی کی پیروی بھی کی ہے۔ اس کے باوجود یہ تمام غزلیں  
 اقبال کے اسلوب کی عکاس ہیں۔ اقبال نے غزل کی کلاسیکی روشن  
 کا بھی لحاظ رکھا ہے اور موضوعات کی وسعت و تنوع کے پیش نظر  
 اس روشن کو جدت سے آشنا بھی کیا ہے۔ رمز و ایما کے علاوہ شعری  
 و غنائی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اقبال نے صنف غزل کو  
 بلند فلسفیانہ خیالات سے بھی ملا مال کیا۔ ان غزلوں میں تعمیر  
 خودی، حبِ اسلام، عشق رسول، حبِّ قوم اور مغرب دشمنی وغیرہ  
 موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ منیر باقی کی غزلوں کے چند  
 اشعار بطور نمونہ درج کئے جاتے ہیں۔  
 نقشِ دگر طرازِ دہ آدم پختہ تر بیار

لعت خاک ساختن می نہ سزد خدائی را (۳۲)

صورت نہ پرستم من ، بت خانہ شکستم من

آن سیل سبک سیرم ، هر بند گستاخ من (۳۳)

حضرت جلوه آن ماہ تعامیخ دارم

دست بر سینه ، نظر بر لب بامع دارم (۳۴)

می تراشد فکر ما هر دم خداوندے دگر

رسٹ از یک بند تا افتاد در بندے دگر (۳۵)

فرنگ گرچہ سخن با ستارہ می گوید

حدڑ کہ شیوه او رنگ جوزنی دارد (۳۶)

## (۳) نقش فرنگ

اس حصہ میں ۲۲ نظمیں ہیں اور آغاز ایک طویل ترکیب بند بعنوان „بیام“ سے ہوتا ہے۔ یہ وہ بیام ہے جو اقبال نے مغرب کو دیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے مغرب کے نظام فکر اور اس کے تہذیبی روئیوں پر شدید تنقید کی ہے اور اسے عشق کے گنج گران مایہ کا پتہ دیا ہے جس سے محرومی نے اسے عقل خود میں کرے حوالر کر دیا ہے اور وہ نہ صرف اپنے لئے بلکہ ساری دنیا کے لئے تباہی و بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے راز حیات کو آشکارا کرنے کے ساتھ ساتھ مشرق کی بیداری اور عروج نو کی پُر اعتماد پیش گونی کی ہے یہ نظم اقبال کے فن کا عمدہ نمونہ ہے جس میں فکر عمیق نے شوکت الفاظ کے ساتھ مل کر عجب سماں باندھ دیا ہے۔

اس حصہ کتاب میں اقبال نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف صدائر احتجاج بلند کی ہے مزدور کو پیغام بیداری دیا ہے جمعیت اقوام (League of Nations) کو کفن چوروں کی انجمان قرار دنے کر اہل مشرق کو اس کے دام فریب میں آنے سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے اس حصے میں اقبال نے مشرق و مغرب کے بہت سے مفکرین اور شعراء پر بھی نگاہ باز گشت ڈالی ہے۔ اس ضمن میں اقبال نے نیشنسر (متوفی ۱۹۰۰ء)، آئن سٹائن (متوفی ۱۹۵۵ء) لاک (متوفی ۱۸۰۳ء) کانٹ (متوفی ۱۸۰۳ء) برگسان (متوفی ۱۹۳۱ء) آگسٹس کومٹ (متوفی ۱۸۵۵ء)، ثالسٹانی (متوفی ۱۹۱۰ء) کارل مارکس (متوفی ۱۸۸۳ء) ہیگل (متوفی ۱۸۳۱ء) براوننگ (متوفی ۱۸۸۹ء)، بائرن (متوفی ۱۸۲۲ء)، رومی (متوفی ۱۲۴۳ء)، غالب (متوفی ۱۸۶۹ء) کے افکار پر تبصرہ کیا ہے۔

بعض مقامات پر مکالموں کی صورت میں اور بعض مقامات پر

کسی شخصیت کر فکر و فلسفہ کو دو مصروعون میں پیش کر دیا ہے۔

ان کا تبصرہ و تجزیہ اس قدر بہرپور اور اس کی پیشکش اس قدر فنکارانہ ہے کہ بی اختیار داد دینے کو جوی چاہتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ اقبال نے نظم „شعراء“ میں براوننگ، بائرن، غالب اور رومی کی نظریہ زندگی کو غالب کر ایک شعر کی زمین میں بادہ و ساغر کر حوالی سر کس طرح واضح کیا ہے:

براوننگ

بی پشت بود بادہ سر جوش زندگی

آب از خضر بگیرم و در ساغر افگنم  
بائرن

از منت خضر نتوان کرد سینہ داغ

آب از جگر بگیرم و در ساغر افگنم  
غالب

،،تا بادہ تلخ تر شود و سینہ ریش تر  
بگدازم آبگینه و در ساغر افگنم“

رومی

آمیزش کجا گھر پاک او کجا اسے سوچوں لے لیے لیے  
از تاک بادہ گیرم و در ساغر افگنم (۲۴)

براوننگ بادہ زندگی خضر سر لیتا ہے بائرن اپنے جگر کر خون سرے، مرزا غالب آبگینہ دل کو پگھلا کر زندگی کی شراب بناتا ہے اور رومی براہ راست تاک سرے بادہ حیات کشیدہ کرتا ہے۔

خرده

آخر میں „خرده“ کر عنوان کر تحت چند ایک متفرق اشعار و قطعات درج کئے ہیں جن میں جدت پسندی اور خطرجنوی کی تلقین

کی ہے۔ اس حصے کا ایک شعر دیکھئیجیے:

ندارد کاربا دون همتان عشق  
تدرو مردہ را شاهین نگیرد (۳۸)

### تبصرے

علامہ اقبال کی اس معرکہ آرا تصنیف کو برصغیر پاک و ہند کرے  
اندر اور باہر خاص شہرت حاصل ہوئی۔ متعدد اہل فن نے اس پر  
تبصرے کرے کرے اور اس طرح اقبال کی فلسفیانہ بصیرت اور فنکارانہ  
مہارت کی داد دی۔

„پیام مشرق“ پر تبصرہ نگاری کرے سلسلے میں اولین نام چوہدری  
محمد حسین کا ہمارے سامنے آتا ہے جنہوں نے کتاب کرے مسودے کو  
اشاعت کرے لئے مرتب کیا تھا۔ انہوں نے اس وقت تبصرہ لکھا تھا جب  
اس کتاب کا پہلا حصہ کاتب کرے پاس پہنچ چکا تھا اور چھپنے میں  
ابھی دو ماہ باقی تھے۔ یہ تبصرہ پہلے „هزار داستان“ اور پھر  
،زمیندار“ لاہور بابت ۱۷ مارچ ۱۹۲۳ء (جلد ۱۰ نمبر ۶۳ ،  
صفحہ ۱) ۱۹ مارچ ۱۹۲۳ء (جلد ۱۰ ، نمبر ۶۳ ، صفحہ ۱ ، ۳) اور  
۲۱ مارچ ۱۹۲۳ء (جلد ۱۰ نمبر ۶۵ صفحہ ۱ ، ۳) میں بالاقساط  
چھپا تھا۔ (۳۹) کتاب جب شائع ہو گئی تو اس پر سید سلیمان ندوی  
اور مولانا اسلم جیراجپوری ایسے بزرگوں نے بھی تبصرے لکھے۔  
جهاں تک بیرون ملک کتاب کی پذیرائی کا تعلق ہے خود اقبال نے اپنے  
بعض خطوط میں اس کا ذکر کیا ہے۔

خان نیاز الدین خان کے نام ۲۰ جولائی ۱۹۲۳ء کے خط میں  
اقبال لکھتے ہیں: „پیام مشرق کے متعلق بہت سے خطوط دور و  
نزدیک سے آئے اور آ رہے ہیں۔ برلن سے ایک پروفیسر نے لکھا ہے  
کہ حیرت انگیز کتاب ہے پروفیسر مارووائٹر جو علی گڑھ میں عربی

کرے پروفیسر تھے اور اب جرمنی میں ہیں اس پر ریویو لکھ رہے ہیں جو جرمن اخبارات میں شائع ہو گا۔ پروفیسر نکلسن نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک قابل تحسین جواب گوئٹھ کے دیوان مغربی کا ہے اور جدید اور اوریجنل خیالات و افکار سے لبریز ہے۔<sup>(۵۰)</sup>

خان محمد نیاز الدین خان ہی کو ۲۸ جولائی ۱۹۲۳ء کرے

خط میں تحریر کرتے ہیں :

”مجھے یقین ہے کہ فرنک فورٹ کرے پروفیسر ماروواائز کا ریویو عنقریب ہندوستان آئے گا۔ اس کا (جرمنی سے) انگریزی ترجمہ کرا کرے یہاں شائع کر دیا جائے گا۔“<sup>(۵۱)</sup>

جس زمانے میں پیام مشرق شائع ہوئی ایران کرے ایک شاعر ڈاکٹر محمود افشار مرحوم بمبئی میں تھے انہوں نے پیام مشرق سے متاثر ہو کر اس کی تعریف میں چند شعر کہے تھے جو انہوں نے علامہ اقبال کی خدمت میں بھی ارسال کئے تھے۔ ان اشعار کا تذکرہ اقبال نے سید نذیر نیازی کرے نام ۱۹۳۶ء کرے خط میں کیا ہے۔

اندیشہ داشتم چو ز ہندوستان روم

سوغاتی سفر چہ بر دوستان برم

اقبال روی کرد و فراز آمد از درم

گلمہای نو ظہور کہ زی بوستان برم

نغمہ سرا شوند همه بلبلان پارس

زین نغز چامہ ها کہ ز ہندوستان برم<sup>(۵۲)</sup>

### ترجمہ

پیام مشرق کو مختلف زبانوں میں منتقل کرنے کا کام خود اقبال کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ مکاتیب اقبال کے مطالعہ سے

معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۳۳ء میں ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی کر ایک انگریز دوست کرنل ثیوٹ اقبال کی کتاب „بانگ درا“ کی نظموں کا انگریزی ترجمہ کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں وہ اقبال کی اجازت اور راہنمائی کر طلبگار تھے۔ ڈاکٹر صوفی نے ان کی مدد کی غرض سے سلسلہ جنبانی کی تو اقبال نے فارسی کلام خصوصاً زبور عجم، پیام مشرق اور جاوید نامہ کی طرف توجہ دلانی تو کرنل ثیوٹ نے پیام مشرق کی رباعیات (قطعات) کر ترجمہ پر آمادگی ظاہر کی۔ اقبال نے بعض شرائط کر تھت اس کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر صوفی کر نام اقبال کر پانچ خط ہیں اور ان میں زیادہ تر پیام مشرق کی رباعیات کر ترجمہ کا ذکر ملتا ہے (۵۲) ان خطوط سے بعض دیگر تراجم کا علم بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صوفی کر نام ۳۱ مارچ ۱۹۳۳ء کر خط میں اقبال لکھتے ہیں: „پیام مشرق کا ترجمہ جرمن زبان میں ارلانگن یونیورسٹی کر پروفیسر ہل کر رہے ہیں (۵۳) ۲۳ مئی ۱۹۳۳ء کر خط میں رقمطراز ہیں :

„اسلامیہ کالج لاہور کر پروفیسر تائیر نے بھی چند رباعیات کا ترجمہ کیا ہے، (۵۴) ۱۹۳۳ء کر مکتب میں اقبال لکھتے ہیں:

„انہوں (نکلسن) نے بعض نظمیں پیام مشرق کی بھی ترجمہ کی تھیں جو جرمنی کر رسالہ *Islamica* میں شائع ہوئی تھیں“ (۵۵)

مختلف ملکوں اور زبانوں میں „پیام مشرق“ کر جو مکمل اور جزوی ترجمہ ہوئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے :

اردو

شیر علی خان سرخوش نے „جام مشرق ملخص پیام مشرق“ کر نام سے پیام مشرق کے خاص حصوں کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا جو ۱۹۲۳ء میں لاہور سے شائع ہوا۔

عبدالرحمن طارق نے „روح مشرق“ کے نام سے اردو میں منظوم ترجمہ کیا جو ۱۹۵۲ء میں لاہور سے شائع ہوا۔

مولوی صالح محمد نے منی ۱۹۳۰ء کے لگ بھگ پیام مشرق کی رباعیات (قطعات) کا اردو ترجمہ کیا جو اقبال کی نظر سے بھی گذرا تھا۔

فیض احمد فیض اور حضور احمد سلیم نے منتخب حصوں کا منظوم ترجمہ کیا جسے اقبال اکادمی نے الگ الگ جلدیوں میں ۱۹۴۴ء میں شائع کیا۔

„لالہ طور“ کا مکمل اور غزلوں اور نظموں کی خاصی تعداد کا منظوم اردو ترجمہ حکیم سرو سہارنپوری نے کیا ہے جو ابھی تک کتابی صورت میں نہیں چھپ سکا۔ تاہم اس کے متعدد حصے ملکی اخبارات و رسانیل میں شائع ہو چکے ہیں۔

اطالوی

پروفیسر بوسانی (A. Bausani) نے ۱۹۵۲ء میں جاوید نامہ کے منتخب حصوں کا ترجمہ Poema Celeste شائع کیا تھا اس کی اشاعت دوم (۱۹۶۳ء) میں پیام مشرق اور بعض دیگر مجموعوں کے بھی منتخب حصے شامل کر لئے گئے۔

انگریزی

پوفیسر اے جی آربری (A. J. Arberry) نے „لالہ طور“ کا ترجمہ کے نام سے کیا ہے جو رائل انڈین سوسائٹی لندن نے The Tulip of Sinai.

۱۹۳۲ء میں شائع کیا -

ایم ہادی حسین نے „بیام مشرق“ کا انگریزی ترجمہ کیا جس کا پہلا  
ایڈیشن

#### A Selective Rendering of Iqbal's Payam—i—Mashriq „

کر زیر عنوان شائع ہوا تھا۔ بعد میں مکمل ترجمہ  
کرے نام سے اقبال اکادمی نے ۱۹۴۷ء میں شائع  
کیا جس میں ..جونئی آب۔ کرے سوا تمام منظومات کا ترجمہ شامل ہے  
اور اختتام پر حواشی بھی دیئے گئے ہیں۔

عبدالرحمن طارق نے اقبال کی تمام رباعیات (مشمولہ بیام  
مشرق) کو انگریزی میں منتقل کیا ہے جسے شیخ غلام علی اینڈ سنز  
لاہور نے ۱۹۴۳ء Rubayat of Iqbal کرے نام سے شائع کیا ہے۔

#### بنگالی

متعدد نظموں کا بنگالی ترجمہ پروفیسر امین الدین سابق صدر  
شعبہ بنگلہ اسلامیہ انٹر کالج ڈھاکہ نے کیا۔

پشتو شیر محمد مینوش نے پشتو میں ترجمہ کیا جسے اقبال اکادمی نے  
۱۹۶۳ء میں شائع کیا۔

#### پنجابی

صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے ..نقش اقبال۔ کرے عنوان سے بیام  
مشرق کی متعدد نظموں کا ترجمہ کیا جسے اقبال اکادمی نے ۱۹۴۷ء  
میں لاہور سے شائع کیا۔

#### ترکی

بیام مشرق کا ایک ترجمہ ڈاکٹر علی گنجیلی نے کیا ہے۔  
ڈاکٹر علی نہاد تارلان نے Sarktan Haber کرے عنوان سے اس کو

ترکی نشر میں منتقل کیا اور ۱۹۵۶ء میں انقرہ سر شائع کیا ہے ترجمہ  
دوسری بار ۱۹۶۳ء میں استنبول سر اور اسی سال اقبال اکادمی  
پاکستان نے کراچی سر شائع کیا ۔

### جرمن (Germany)

ڈاکٹر ہانز مائنگر (Dr. Hans Maenge) نے „بیام مشرق“ کرے ایک  
حصہ کا ترجمہ کر کر خوبصورت چھٹے پر خوش خط لکھوا کر اور  
نقش و نگار بنوا کر اقبال کی خدمت میں بطور تحفہ ارسال کیا ۔ یہ  
ترجمہ ستہ اوراق پر مشتمل ہے اور اقبال میوزیم لاہور میں محفوظ  
ہے (نمبر سلسلہ عام ۱۹۴۷ - ۱۹۶۲ء) ۔  
ڈاکٹر شمل (Dr. Annemarie Schimmel) نے Botschaft der Ostens کرے  
عنوان سر جرمن میں منظوم ترجمہ کیا جو ۱۹۶۳ء میں ویز باڈن (Wiesbaden)  
سر شائع ہوا ۔

ڈیوس روسو نے کتاب کرے دیباچے کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا ۔  
چیکو سلواکی (Czechoslovakia)  
جان ماریک (Jan Maerk) نے بیام مشرق کی منتخب نظمون کو  
Poselstvo Vychoa کرے نام سر چیکو سلواکی زبان میں منتقل کیا جس کا  
تصویر ایڈیشن ۱۹۶۲ء میں پراگ سر شائع ہوا ۔

### عربی

مولانا مسعود عالم ندوی نے عربی زبان میں بیام مشرق کا ترجمہ  
„رسالة المشرق“ کرے نام سر کیا ۔

ڈاکٹر عبدالوهاب عزام نے عربی میں منظوم ترجمہ کیا جسے  
مجلس اقبال کراچی نے (غالباً ۱۹۵۱ء میں) شائع کیا ۔

### فارسی

ڈاکٹر محمد ریاض نے اس کرے دیباچے کا ترجمہ کیا ہے جو ان کے

مقالہ „ترجمہ دیباچہ ہائی آثار فارسی اقبال“ میں شامل ہے جسے اقبال اکادمی پاکستان نے اقبال ریبویو میں شائع کیا۔

### فرانسیسی

ایوا میرووج (M. Achena) اور محمد اکانا (E. Meyerovitch) نے مشترکہ طور پر **Message De L'orient** کے عنوان سے ترجمہ کیا جو ۱۹۵۶ء میں پیرس سے شائع ہوا۔

### گجراتی

سید عظیم الدین منادی نے گجراتی زبان میں ترجمہ کیا جسے اقبال اکادمی نے ۱۹۶۳ء میں کراچی سے شائع کیا۔

### شرحیں

بیام مشرق کی ایک شرح بروفیسر یوسف سلیم چشتی نے لکھی جسے عشرت پیلسنگ ہاؤس لاہور نے ۱۹۵۳ء میں شائع کیا۔ شریف ارمی نے بیام مشرق کی منتخب نظموں کا ترجمہ و تشریح کی جو ۱۹۷۶ء میں جدید بُک ڈبو لاہور نے طبع کی۔ اس کے علاوہ مختلف نصابی ضرورتوں کے تحت اس کی منتخب منظومات کے متعدد ترجمے اور شرحیں شائع ہو چکی ہیں۔

## حوالہ

(۱) مکاتیب اقبال بنام گرامی۔ ص ۱۳۶

مولانا گرامی کے نام اقبال کے خط محررہ یکم جولائی ۱۹۱۶ء سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے مشنی .. اسرار خودی .. کا تیسرا حصہ ۱۹۱۶ء میں لکھنا شروع کر دیا تھا اور غالباً بھی وہ حصہ ہے جس نے بعد میں .. بیام مشرق .. کا نام بیا۔

(۲) اقبال نامہ، اول، ص ۱۰۰

.. بیام مشرق .. شائع ہونی تو اس میں صرف فارسی کلام شامل تھا۔ اردو کلام ممکن ہے .. بانگ درا، (۱۹۲۳ء) میں شامل کر لیا گیا ہو۔

- (۲) ایضاً ص ۱۰۸  
میں اس روزہ شہر کا دکس افسار میرزا گوئی تھا۔ (۷)
- (۳) ایضاً ص ۱۰۸  
میں نہیں بلکہ سو ٹھوڑے شہر میں اس نہیں تھا۔ (۷)
- (۴) ایضاً ص ۲ ۱۵۹  
۰۷۷ - ۰۷۸
- (۵) ایضاً ص ۱۵۹  
ب خدا، ریشمہ طلب، بیہ رو ۱۹۲۲ء تھا۔ (۷)
- (۶) اقبال کامل، ص ۱۸۰ ۱۸۰  
۰۹ - ۰۱۰
- (۷) مکاتیب اقبال بنام گرامی ص ۲۲ سید، حبیب ویس ڈاکٹر نالہ ریشمہ طلب
- (۸) اقبال نامہ، ۱ ص ۲۲۳ ۲۲۳  
۳۷۷ - ۳۷۷
- (۹) اقبال نامہ، ۱ ص ۱۳۱ ۱۳۱  
۰۷۷
- (۱۰) کتاب میں سید سلیمان ندوی کر نام اقبال کر خط کی تاریخ ۲۳ مئی ۱۹۲۲ء دی گئی ہے۔  
جیکہ اصل خط میں ۲۳ مئی ۱۹۲۲ء درج ہے۔ „اقبال نامہ“ میں درج تاریخ مرتب یا کاتب کا  
سہرو معلوم ہوتا ہے۔ (۷)
- (۱۱) شاد اقبال، ص ۱۲۷ ۱۲۷
- (۱۲) روزگار فقیر، اول، ص ۲۱۵ ۲۱۵
- (۱۳) تفصیل کر لئے دیکھئیں، „تصانیف اقبال“، ص ۱۲۳ - ۱۳۲
- (۱۴) بانگ درا، ص ۹ ۹
- (۱۵) یہ شعر اقبال کی نظم مرزا غالب سے لیا گیا ہے جو بانگ درا کر حصہ اول (۱۹۰۵ء تک)  
میں شامل ہے۔ اسی طرح اقبال نے اپنی ۱۹۱۰ء کی بیاض میں بھی کتنی جگہ گونئی کا ذکر کیا  
ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال قیام بورب کے دوران گونئی سے متعارف ہوئے تھے اور پھر وہ  
مسلسل اس کے بارے میں معلومات جمع کرنے رہے۔ یہ اقبال ہی کی کوشش ہے کہ آج برصغیر  
خصوصاً پاکستان میں گونئی کی شخصیت اتنی معروف ہے
- (۱۶) بیام مشرق ص الف ۱۸۳
- (۱۷) بیام مشرق ص ۱۸۳
- (۱۸) ویر کر منعکس حاشیہ میں اقبال لکھتے ہیں، „جرمنی میں ایک شہر ہے جہاں گونئی نے اپنی  
زندگی کا بہت سا حصہ سر کیا اور بعد انتقال وہیں دفن ہو۔“ (۷)
- (۱۹) اقبال چودھری محمد حسین کی نظر میں، ص ۱۲۱، ۱۲۲
- (۲۰) بیام مشرق ص ۲۳۶ ۲۳۶
- (۲۱) اس نظم کے حاشیہ میں اقبال نے نکتہ دان المٹی کی وضاحت ان لفظوں میں کی ہے۔ „نکتہ دان  
المٹی سر مراد گونئی ہے جس کا ڈرامہ، فوست، مشہور و معروف ہے اس ڈرامے میں شاعر نے  
حکیم فوست اور شبستان کے عہد و بیان کی قدیم روایت کر بیانی میں انسان کی امکانی  
نشوونما کے تمام مدارج اس خوبی سے بتائے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کمال فن خیال میں نہیں  
آ سکتا۔“ (۷)
- (۲۲) اقبال چودھری محمد حسین کی نظر میں - ص ۱۲۱ - ۱۲۲
- (۲۳) ایضاً، ص ۱۳۶ ۱۳۶
- (۲۴) بیام مشرق، ص ۲ - ۲
- (۲۵) بحوالہ، اقبال اور گونئی، ص ۹۹

- (۲۳) اپنا، ص ۱۰۰  
 (۲۴) بیام مشرق، ص ۱  
 (۲۵) سورہ بقرہ - ۱۱۵  
 (۲۶) آیت کری اصل الفاظ یوں ہیں „وَهُوَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ“  
 (۲۷) بیام مشرق، ص - م  
 (۲۸) انگریزی اشارات کرے لئے رجوع کیجئے، تصانیف اقبال کا تحقیق و توضیحی مطالعہ، ص ۲۲۲ - ۲۲۳  
 (۲۹) بیام مشرق - ص - م - ن  
 (۳۰) ملاحظہ کیجیئے پروفیسر فرمان فتحیوری کا مضمون، رباعی کیونکر، مشمولہ سد ماہی مجلہ، „صحیفہ لاہور، ستمبر ۱۹۵۸ء“  
 (۳۱) اقبال نامہ، ص ۳۰۳  
 (۳۲) بیام مشرق، ص ۲۴  
 (۳۳) اقبال کی نیرہ نظمیں، ص ۲۰  
 (۳۴) بیام مشرق، ص ۱۵۱  
 (۳۵) اقبال اور گوئٹھ، ص ۹۶  
 (۳۶) اقبال کی فارسی شاعری کا تنقیدی جائزہ، ص ۸۶  
 (۳۷) مجلہ گورڈوین (Gordonian) هجرت نمبر، ص ۵ - <  
 (۳۸) بیام مشرق، ص ۱۵۱ - ۱۵۲  
 (۳۹) برکات اقبال، ص ۲۲۲ - ۲۲۳  
 (۴۰) بیام مشرق، ص ۱۲۴ - ۱۲۹  
 (۴۱) دیوان حافظ، ص ۹  
 (۴۲) بیام مشرق، ص ۱۹۲  
 (۴۳) اپنا، ص ۱۹۹  
 (۴۴) اپنا، ص ۱۹۵  
 (۴۵) اپنا، ص ۱۸۰  
 (۴۶) اپنا، ص ۱۹۳  
 (۴۷) اپنا، ص ۲۵۲  
 (۴۸) اپنا، ص ۲۶۳  
 (۴۹) اقبال چوہدری محمد حسین کی نظر میں، ص ۱۲۵  
 (۵۰) مکاتیب اقبال بنام خان محمد نیاز الدین خان، ص ۳۶ - ۳۷  
 (۵۱) اپنا، ص ۲۴  
 (۵۲) مکتوبات اقبال بنام سید نذیر نیازی، ص ۱۹۳ تیر دیکھئیں: „گفتار ادبی“ از محمود افشار ج ۲ ص ۳۶۲ مرحوم نز اپنی مذکورہ کتاب میں اقبال کرے سانہ اس مختصر خط و کتابت کو درج کیا ہے اس مضمون کا اردو ترجمہ سید عارف نوشیروں کیا اور بعنوان، „اقبال کا ایک نادر خط“، ماهنامہ فیض الاسلام راویینڈی شمارہ جنوری ۱۹۸۸ء (اقبال نمبر)

میں شائع ہوا۔ بعد میں اس اردو مضمون کا عکس افشار مرحوم نے مختصر تبصرے کی ساتھ اپنی کتاب „افغان نامہ“ جلد سوم مطبوعہ تهران میں بھی شامل کر دیا۔

(۵۲) اقبال نامہ، ۱، ص ۹۹-۲۰۲

(۵۳) ایضاً، ص ۳۰۰

(۵۴) ایضاً، ص ۳۰۲

(۵۵) ایضاً، ص ۲۲۴

## کتابیات

### كتب

- ۱ - اقبال نامہ، حصہ اول، شیخ عطاء اللہ ایم۔ ۱۹۳۳ء، شیخ محمد اشرف، لاہور
- ۲ - اقبال نامہ، حصہ دوم، شیخ عطاء اللہ ایم۔ ۱۹۵۱ء، شیخ محمد اشرف، لاہور
- ۳ - اقبال کی تیرہ نظمیں، اسلوب احمد انصاری، جنوری ۱۹۴۷ء، مجلس ترقی ادب، لاہور
- ۴ - اقبال چوہدری محمد حسین کی نظر میں، محمد حنف شاہد، ۱۹۸۵ء، سنگ میل پبلی کیشنر، لاہور
- ۵ - اقبال اور گوئٹھی، محمد اشرف خان اشرف، سن - ن - ملک دین محمد اینڈ ستر، لاہور
- ۶ - اقبال کی فارسی شاعری کا تقدیدی جائزہ، ڈاکٹر عبدالشکور احسن، ۱۹۷۷ء، اقبال اکادمی، پاکستان
- ۷ - برکات اقبال، ڈاکٹر محمد ریاض، ن - ن، مقبول اکیڈمی، لاہور
- ۸ - بانگ درا، محمد اقبال، ستمبر ۱۹۵۸ء، شیخ غلام علی اینڈ ستر، لاہور
- ۹ - بیام مشرق، محمد اقبال، ۱۹۶۳ء، شیخ غلام علی اینڈ ستر، لاہور
- ۱۰ - تصنیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ، ڈاکٹر رفیع الدین هاشمی، ۹ نومبر ۱۹۸۲ء، اقبال اکادمی، لاہور
- ۱۱ - دیوان حافظ (اردو ترجمہ و شرح)، عباد اللہ اختر، ۱۹۷۹ء، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد
- ۱۲ - روزگار فقیر، اول، فقیر سید وحید الدین، اپریل ۱۹۶۶ء لائن آرت پرنس، کراچی
- ۱۳ - شاد اقبال، ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، ۱۹۳۲ء، سب رس کتاب گھر، حبہر آباد دکن
- ۱۴ - شذررات فکر اقبال (اردو ترجمہ)، ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، دسمبر ۱۹۷۳ء، مجلس ترقی ادب، لاہور
- ۱۵ - مکاتیب اقبال بنام گرامی، محمد عبدالغفار قربی، اپریل ۱۹۷۹ء، اقبال اکادمی کراچی
- ۱۶ - مکاتیب اقبال بنام خان محمد نیاز الدین خان، ۱۹۵۳ء، یزم اقبال، لاہور
- ۱۷ - مکتوبات اقبال، سید نذیر نیازی، ستمبر ۱۹۷۴ء، اقبال اکادمی، کراچی

### رسائل

- ۱ - سہ ماہی مجلہ، صحیفہ، لاہور، ستمبر ۱۹۵۸ء
- ۲ - مجلہ گورنمنن، راولپنڈی، ہجرت نمبر، ۱۹۸۲ء

ڈاکٹر سید وحید اشرف مدرس

(۷۰) ۶۳۸ھ / ۱۲۲۰ء - ۵۵۶۰ھ / ۱۱۶۵ء

(۷۰) ۰۷ - ۷۷ - ۱۰۰ - ۷۰۷ - ۷۰۷ - ۷۰۷

(۷۰) ۷۰۷ - ۷۰۷ - ۷۰۷ - ۷۰۷

## آٹھویں صدی ہجری میں ایران اور ہندوستان میں ابن عربی کے افکار پر رد عمل

### تبلیغ

محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی (۱۱۶۵ء - ۱۲۲۰ھ / ۵۵۶۰ھ) کی شہرت ان کے نظریہ وحدت الوجود کی بناء پر ہے۔ وحدت الوجود کا تصور ابن عربی نے بہلی بار نبیین پیش کیا ہے بلکہ ان سے بہلی بہت سرے صوفیہ کے پہاڑ یہ تصور ملتا ہے لیکن ابن عربی وہ بہلی شخص ہیں جنہوں نے اس تصور کو ایک نظری فلسفہ کی حیثیت دی۔

ابن عربی کے مخالفین اور موافقین شروع ہی سے بیدا ہو چکے تھے۔ ابن عربی کے شاگرد صدر الدین قونیوی (م ۶۷۳ھ) اور پھر ان کے شاگرد فخر الدین ابراهیم بن بزرگ مہر بن عبدالغفار جوالقی المخلص بہ عراقي (م ۶۸۸ھ) نے اس نظریہ کو صوفیہ میں عام کرنے میں کامیاب کوششیں کیں۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ابن عربی کے مخالفین اور موافقین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آٹھویں صدی ہجری میں ابن عربی کی شخصیت اور ان کا نظریہ وحدت الوجود بحث و مباحثہ کا خاص موضوع بن گئے۔ لطایف اشرفی میں ایک بیان سے ان مخالفتوں کا کچھ پتہ چلتا ہے لیکن اشخاص کے نام اس بیان میں نہیں دیے گئے۔ البته جن صوفیہ نے اس موضوع پر اپنی مستقل تصنیفات چھوڑی ہیں اور ہم تک وہ تصنیفات پہنچیں ہیں ان سے مخالفتوں اور موافقوں کی نویعتوں کا پتہ چلتا ہے۔

آٹھویں صدی ہجری میں ابن عربی کے موافقین میں خاص نام یہ بیں: شیخ کمال الدین عبدالرازاق کاشانی، صائن الدین علی بن محمد الترکہ، مخدوم علی فقیہ مہانی، اور سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ اسی دور میں شیخ علاء الدولہ سمنانی (م ۷۳۶ھ) اور سید محمد گیسو دراز (م ۸۲۵ھ) بیس جن کا شمار اجلہ صوفیہ میں ہوتا ہے جو ابن عربی کے مخالف تھے۔ بظاہر ان کی مخالفت کا سبب ابن عربی کا نظریہ وحدت الوجود ہے۔ اس مضمون میں ابن عربی کے بارے میں

انہی دونوں صوفیہ کے نظریات کا جائزہ لیا گیا ہے۔

شیخ علاء الدولہ سمنانی کے حالات متعدد کتابوں میں ملتے ہیں لیکن ان کے حالات کے مستند ترین مأخذ خود ان کی تحریر اور ملفوظات ہیں۔ انہوں نے اپنے حالات اپنی کتاب "العروة لا بل الجلوة والخلوة" میں خود لکھے ہیں۔ ان کے ملفوظات "چہل مجلس" میں بھی ان کے بعض حالات ملتے ہیں جو ان کے مرید اقبال سیستانی نے قلمبند کیے ہیں۔ ان کا پورا نام یوں ہے: احمد بن محمد بن احمد بن محمد بیبانکی ملقب بہ علاء الدولہ و رکن الدین و ابو المکارم۔ سمنان کے قریب بیبانک میں ۶۵۶ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۷۳۶ھ میں وفات پائی اور ویس قریب صوفی آباد میں مدفون ہوئے۔ والد محمد کا لقب ملک شرف الدین تھا اور چچا ملک جلال الدین تھے۔ دونوں ارغون خان اور غازان خان ایلخانی کے عہد میں معزز عہدے پر فائز تھے لیکن آخر کار دونوں قتل کردیے گئے۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی پندرہ سال کی عمر میں ارغون خان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ چوبیس سال کی علوم ظاہری میں تکمیل کی اور قران مجید بھی حفظ کیا۔ ۶۸۴ھ میں شیخ عبدالرحمن اسفرائیں کے مرید ہو گئے۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی شاعر بھی تھے اور تصوف میں بہت سی کتابوں کے مصنف بھی۔ سمنان میں خانقاہ سکاکیہ کی توسعی و تجدید کی اور ویس درس و ارشاد میں مصروف رہے۔ ۸

حضرت سید اشرف جہانگیر نے ابتداء میں سب سے پہلے شیخ علاء الدولہ سمنانی سے سلوک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشی سے تصوف میں درس لیا۔ ۹ جس زمانے میں شیخ علاء الدولہ سمنانی نے ابن عربی سے وحدت الوجود کے بارے میں اختلاف کیا اس وقت شیخ کمال الدین بقید حیات تھے اور حضرت سید اشرف جہانگیر نے بھی (جو سمنان کے شہزادہ تھے) ابھی ترک سلطنت نہیں کیا تھا بلکہ امور سلطنت کے ساتھ تصوف و سلوک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ چونکہ حضرت سید اشرف دونوں بھی سے استفادہ کر رہے تھے اس لیے اس اختلاف کی خبر شیخ کاشانی کو بھی ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں بزرگوں میں خط و کتابت کے ذریعہ اس موضوع پر بحث و مباحثہ ہوا۔ چونکہ حضرت سید اشرف جہانگیر دونوں کے پاس جاتے تھے اس لیے بیگام رسانی کا کام بھی آپ بھی کر رہے تھے۔ ان کے همراہ امیر اقبال سیستانی بھی رہتے تھے جو شیخ علاء الدولہ

سمنانی کے مُرید و خادم تھے۔ ان خطوط کی نقلیں لطائف اشرفی میں محفوظ ہیں ۱۱۔ ان خطوط کی اہمیت کا اندازہ اس اعتبار سے کونا چاہیے کہ ابن عربی کی مخالفت میں سب سے بہلی یہ سنجدہ تحریر ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اگرچہ علامہ ابن تیمیہ (۱۲۶۳ء۔ ۱۳۲۸ء) نے بھی ابن عربی کی مخالفت بڑی شدت سے کی ہے لیکن یہاں ان کا انداز بڑا غیر سنجدہ ہے اس کے علاوہ ابن تیمیہ تصوف بی کے سرے سے مخالف ہیں اس لیے وہ بھاری بحث سے خارج ہیں۔ ابن تیمیہ اور شیخ علاء الدولہ سمنانی دونوں معاصر ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی سے ابن تیمیہ کی مخالفت کا حال نہ شیخ علاء الدولہ کو معلوم ہو سکا اور نہ حضرت سید اشرف کو، ورنہ توقع تھی کہ ابن تیمیہ کے قول پر بھی کچھ بحث ہوتی۔

شیخ علاء الدولہ سمنانی اور عبدالرزاق کاشانی کی بحثوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی ان میں محاکمه کرتے ہیں اور شیخ علاء الدولہ سمنانی اور ابن عربی کے نظریات میں صرف لفظی اختلاف ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت سید اشرف جہانگیر کے بیان کی مطابقت چہل مجلس سے بھی ہوتی ہے۔ طوالت کی وجہ سے شیخ کاشانی اور شیخ علاء الدولہ کی بحثوں کو یہاں نقل کرنے سے احتراز کیا گیا ہے۔ البتہ ان بزرگوں کی آراء بر حضرت سید اشرف جہانگیر کا محاکمه نہایت اہم ہے۔ ذیل میں حضرت سید اشرف جہانگیر کی تحریر اور اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے:

”حضرت قدوۃ الکبری می فرمودند کہ تخطیه ایشان به نسبت شیخ اکبر بسیار غریب نمودہ، باوجود کہ خود بے بزرگی ایشان اعتراف کرده اند چنانکہ در حواشی فتوحات بعضی جایما بخطاب ایشان نوشته اند ایها الصدیق و ایها المقرب و ایها العارف الحقانی و این حواشی حالا موجود اند. چون حضرت ایشان راسخن بادب گفتہ ایم در مواجه مکابرہ در سخن نکردیم اما بپرحال در سخن ایشان تأویل کرده ایم و عظمت محاورہ ایشان نہاند کہ خاطر مبارک شانرا نشان کرده آید۔ اکنون بباید دانست کہ در حقیقت توحید میان ایشان خلاف نیست و تخطیه و تکفیر حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ به نسبت حضرت شیخ عبدالرزاق بآن معنی است کہ وی از کلام شیخ فہم کرده نہ آن معنی کہ مُراد شیخ است زیرا کہ وجود را سہ اعتبار است یکی اعتبار وی بشرط شی کہ وجود مقید است، دوم لا بشرط شی کہ وجود عام است سوم بشرط لاشی کہ وجود مطلق است۔ آنکہ شیخ قدس سرہ ذات حق سبحان تعالیٰ را

وجود مطلق گفته است بمعنى اخیر است و شیخ رکن الدین آنرا بر وجود عام حمل کرده و در نفی و انکار آن مبالغه نموده باوجود آنکه خود باطلاق وجود ذات بمعنى اخیر اشارت کرده است چنانچه در بعضی رسائل فرموده که الحمد لله على الایمان بوجوب وجوده و نزاهته عن ان یکون مقیداً محدوداً او مقیداً لا یکون بلا مقيدات وجود ۱۱

"حضرت قدوة الکبری می فرمودند که این نزاع و گفتگوی در اوائل حال بوده، چون در صحبتی‌ای آخرين بملازمت مشرف شدیم روزی جمعی از اکابر نشسته بودند که در رویشی در مجلس حضرت شیخ رکن الدین علاء الدوله آمد و پرسید که حضرت شیخ ابن العربی که حق را وجود مطلق گفته در قیامت باین سبب معتاب گردد یا نه؟ فرمود که این نوع سخنان را قطعاً نمی خواهیم که بر زبان رانم کاش که ایشان نیز نگفتندی که سخن مشکل گفتن روان نیست اما چون گفته شد ناکام تأویل می‌باید کردن تا در رویشان را شبیه در باطن نیفتند و نیز در حق بزرگان بی اعتقاد نشوند. ظاہراً معنی الدین ابن العربی ازین سخن خواسته که وحدت را در کثرت ثابت کند وجود مطلق گفته تا معراج دوم بیان تواند کرد که معراج دوست ۱۲ یکی آنکه کان الله ولم يكن معه شيء و دریافتمن این آسان است، دوم آنکه الان كما كان و شرح این مشکل تر است . او خواست که ثابت کند که کثرت مخلوقات در وحدت حق هیچ زیاده نکند وجود مطلق در خاطر افتاده است . چون یک شق بدین معنی راست بوده است وی را خوش آمده است و از شق دیگر که نقصان لازم می آید غافل مانده، چون قصد وی اثبات وحدانیت بوده باشد حق تعالی از وی عفو کرده باشد چه هر که از اهل قبله اجتیادی کرده است در کمال حق، اگر خطأ افتداش نزدیک من چون مراد او کمال حق بود اهل نجات خواهد بوده و مصیب و اهل درجات ۱۳" .

"حضرت قدوة الکبری می فرمودند که از ادله ساطعه و برایین قاطعه معلوم شد که وجود یکی بیش نیست و کثرت ذات و تعداد کائنات از روی نهانش است چنانکه روی واحد در مرایا کثرت مرئی گردد قادر وحدت روی نباشد ۱۴" .

ترجمه: "حضرت قدوة الکبری اسید اشرف جهانگیر فرماتر تھے کہ شیخ اکبر بر شیخ علاء الدوله سمنانی کی گرفت بہت تعجب خیز ہے - باوجود اس کے انہوں نے شیخ اکبر کی بزرگی کا اعتراف کیا ہے جیسا کہ فتوحات مکیہ کے حواشی میں اور بعض دوسری جگہوں پر انہوں نے ان کو اس طرح خطاب کیا ہے کہ اے صدیق، اے مقرب، اے عارف

حقانی، اور یہ حواسی اب بھی موجود ہیں۔ چونکہ میں نے ان بزرگوں (شیخ کاشی اور شیخ سمنانی) سے گفتگو میں ادب کا لحاظ رکھا ہے اس لیے محاکمه میں، میں نے ایک دوسرے پر ترجیح دینے کی بات نہیں کی ہے۔ لیکن بہر حال ان کے اقوال میں تاویل کی کوشش کی ہے۔ ان کی باتوں کی عظمت (بماری تحریر میں) باقی نہ رہے گی اگر ہم ان کے خاطر مبارک کو ذرا بھی نہیں پہنچائیں۔

جاننا چاہیے کہ حقیقت توحید کے متعلق ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور شیخ عبدالرزاق کاشی پر شیخ علاء الدولہ سمنانی کی گرفت اس معنی میں ہے جیسا کہ انہوں نے کلام شیخ سے سمجھا ہے نہ کہ اس معنی میں ہے کہ شیخ کی مراد ہے۔ اس لیے کہ وجود کے تین اعتبارات ہیں: ایک اس کا اعتبار بشرط شی کہ وجود مقید ہے، دوسرے لا بشرط شی کہ وجود عام ہے اور تیسرا بشرط لاشی کہ وجود مطلق ہے۔ شیخ قدس سرہ نے ذات حق سبحانہ تعالیٰ کو جو وجود مطلق کہا ہے وہ اسی معنی آخر میں ہے اور شیخ رکن الدین نے اسے وجود عام پر محمول کیا ہے اور اس کے انکار میں مبالغہ سے کام لیا ہے حالانکہ وجود ذات کے اطلاق کی طرف انہوں نے خود اشارہ کیا ہے چنانچہ انہوں نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے "خدا کاشکر ہے اس کے وجود کے وجوب کے ایمان پر اور مقید اور محدود ہونے سے اس کی ذات کی نزاہت میں یقین پر، جو کچھ اُس ذات سے قائم ہے وہ وجود مقید کے سوا کچھ نہیں ہے۔"

"حضرت قدوۃ الکبری فرماتے تھے کہ شیخ علاء الدولہ سمنانی کی یہ گفتگو اور شیخ اکبر سے ان کا اختلاف اوائل حال میں تھا۔ جب میں آخری صحبتوں میں ان کی ملازمت سے مشرف ہوا تو ایک دن اکابر کی ایک جماعت بیٹھی ہوتی تھی کہ شیخ علاء الدولہ سمنانی کی مجلس میں ایک درویش آیا اور اس نے پوچھا کہ شیخ ابن العربی نے وجود حق کو وجود مطلق کہا ہے تو قیامت میں وہ اس سبب سے معذوب ہوں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس قسم کی باتوں کو قطعی نہیں پسند کرتا کہ زبان پر لاوں، کاش وہ بھی ایسی باتیں نہ کرتے کہ مشکل بات کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کہہ چکے ہیں تو ناچار اب تاویل کرنا چاہیے تاکہ درویشوں کے دلوں میں شبہ نہ پیدا ہو اور بزرگوں کے حق میں یہ اعتقاد نہ ہو۔ بظاہر محی الدین ابن عربی کی مراد یہ تھی کہ کثرت میں وحدت کو ثابت کریں اس لیے انہوں نے وجود مطلق کہا ہے تاکہ معراج دوم کا بیان کرسکیں کیونکہ

معراج دو ہیں، ایک یہ کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا یہی تھا اور اس کا معلوم کرنا آسان ہے، دوسرے یہ کہ وہ جیسا تھا وسا بی اب بھی ہے اور اس کی شرح مشکل ہے۔ انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ مخلوقات کی کثرت وحدت حق میں کوئی اضافہ نہیں کرتی اور انہوں نے اس کے لیے وجود مطلق کی اصطلاح وضع کی۔ چونکہ ان کے کلام کی ایک شق اس مفہوم میں درست ہے اس لیے ان کو اچھی معلوم ہوئی اور دوسری شق سے جس سے نقصان لازم آتا ہے، غافل رہ گئے۔ چونکہ ان کا مقصد وحدائیت کا اثبات تھا، حق تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا کیونکہ اہل قبلہ میں سے جس نے بھی کوئی اجتہاد کیا ہے اور حق کے کمال کے ظاہر کرنے میں اس سے کوئی لغوش ہو گئی ہے تو میرے نزدیک وہ اہل نجات میں سے ہوگا کیونکہ اس کا مقصود کمال حق تھا۔

حضرت سید اشرف جہانگیر کا یہ کہنا کہ شیخ علاء الدولہ سمنانی کا شیخ اکبر سے اختلاف محض لفظی ہے نہ کہ حقیقی، خود علاء الدولہ سمنانی کی تحریر سے ثابت ہے جو ان کی کتاب "العروة لا بل الجلوة و الخلوة" میں موجود ہے۔ شیخ اکبر وجود حق کو وجود مطلق کہتے ہیں اور شیخ علاء الدولہ فعل حق کو وجود مطلق کہتے ہیں۔ دونوں شیوخ کے نزدیک وجود کی تین قسمیں ہیں۔ شیخ علاء الدولہ کے نزدیک وجود کی تین قسمیں اس طرح ہیں: وجود حق جو کہ ازلی اور سرمدی ہے اور اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں، دوسرے وجود مقید یعنی مخلوق حق اور تیسرا وجود مطلق یعنی فعل حق۔ کاتب، مکتب اور کتابت کی مثال میں کاتب اصل وجود ہے، مکتب وجود مقید ہے جو کہ نتیجہ فعل کاتب ہے اور کتابت وجود مطلق ہے جو کہ فعل کاتب ہے۔

حضرت سید اشرف جہانگیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیخ علاء الدولہ ابتدائی حال میں شیخ اکبر کے سخت مخالف تھے لیکن بعد میں وہ شیخ اکبر کی بزرگی کے معرفت ہو گئے تھے اور وجود مطلق کے بارے میں شیخ اکبر کے قول کو اجتہادی غلطی سے تعبیر کرتے تھے۔

کتاب چہل مجلس میں شیخ علاء الدولہ سے ابن عربی کے بارے میں سعد الدین حموی کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ هو بحر مواج لاتہایت۔

شیخ علاء الدولہ سمنانی اگرچہ شیخ اکبر کے قول کی مکمل تائید نہ کرسکے لیکن وجود کے بارے میں انہوں نے جس نظریہ کا اظہار کیا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خود وحدت الوجود کے قائل تھے اور

انہیں ابن عربی کے استعمال کردہ صرف اصطلاحی لفظ سے اختلاف تھا۔ کتاب چہل مجلس میں خود ان سے منقول ہے:

”از سید الطایفہ روایت میکنند کہ ليس في الوجود سوی الله . راست است بد نواع یکی آنکہ وجود بر سه نوع است، وجود حقیقی و وجود مطلق و وجود مقید، اگر ازین وجود حقیقی خواستہ است راست است۔ وجود حقیقی جز حق واجب الوجود نیست و دیگر معنی آنکہ هرچہ نام وجود بروی توان نہاد یا ذات حق است یا صفات حق کہ بذات قائم است یا افعال او کہ از صفات فعل صادر است یا آثار او کہ از افعال ظاہر شده و غیر ازین چیزی دیگر موجود نیست۔ پس چون وجود ہمہ با اوست آن سخن راست باشد“ ۱۷۔

ترجمہ: ”سید الطایفہ (جنید بغدادی) سے روایت کرتے ہیں کہ وجود میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے یہ دو طرح سے درست ہے۔ ایک یہ کہ وجود کی تین قسمیں ہیں ایک وجود حقیقی دوسرے وجود مطلق اور تیسرا وجود مقید۔ اگر اس وجود سے مراد حقیقی ہے تو درست ہے اور حقیقی سوائے واجب الوجود کے اور کوئی نہیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ شے جس پر وجود کا اطلاق کیا جاسکتا ہے وہ یا تو ذات حق ہے یا صفات حق جو کہ ذات سے قائم ہیں، یا اس کے افعال جو صفات فعلی کے سبب صادر ہوتے ہیں یا اس کے آثار جو صفات فعلی سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پس چونکہ وجود اُسی ایک ذات سے ہے اس لیے یہ بات درست ہے۔“

وجودی صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل وجود یعنی وجود قائم بالذات ایک ہی ہے بقیہ موجودات صرف اسی کی صفات کا مظہر ہیں اور اُسی کے وجود سے موجود ہیں۔ اس لیے شیخ علاء الدولہ سمنانی اور ابن عربی میں اختلاف حقیقی نہیں صرف لفظی ہے۔ اوحد الدین کرمانی کے مندرجہ ذیل اشعار سے وحدت الوجود کا نظریہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے:

چیزیکہ وجود او بخود نیست  
بستیش نہادن از خد نیست  
بستی کہ بحق قیام دارد  
او نیست ولیک نام دارد  
تا جنبش دست هست مادام  
سایہ متحرک است ناکام

چون سایه زدست یافت مایه  
 بس نیست جدا ژاصل سایه  
 هست است ولیک هست مطلق  
 نزدیک حکیم نیست جز حق  
 بر نقش خود است فتنه نقاش  
 کس نیست درین میان تو خوش باش  
 خود گفت حقیقت و بشنید  
 و آن روی که خود نمود خود دید  
 پس آریقین که نیست والله  
 موجود حقیقی سوی الله

شیخ علاء الدوله سننائی کا زمانہ آٹھویں صدی ہجری کا ابتدائی  
 دور ہے۔ اسی دور میں ابن عربی کے دوسرے مخالف صوفی سید محمد  
 گیسو دراز کا زمانہ آٹھویں صدی ہجری کا آخری اور نویں صدی  
 ہجری کا ابتدائی دور ہے۔ حضرت گیسو دراز حضرت نصیر الدین  
 محمود چراغ دبلی (۷۵۷ھ) خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء (۷۲۵  
 ھ) کے خلیفہ خاص بیس۔ ۳ ربیع الاول ۲۱۷ھ کو دبلی میں بیدا ہوئے۔ محلہ  
 تیمور کے قریب دبلی سے بحوت کر کے گلبرگہ آگئے۔ یہاں بہمنی سلطان  
 فیروز شاہ نے آپ کا استقبال کیا اور آپ نے بھیں رُشد و هدایت کا  
 سلسلہ جاری کیا۔ ۱۶-۱۸ ذیقعد ۸۲۵ھ کو گلبرگہ میں وفات پائی ۱۹  
 - پچاس سے زائد کتابوں اور رسالوں کی مصنف بیس۔ آپ کی تصانیف  
 کے بارے میں حضرت سید اشرف جہانگیر فرماتے ہیں: -  
 بغاۃ عالیشان کہ تصانیفات رایقه و تالیفات لایقه از آن حضرت  
 سر بر زده اند ...

ترجمہ: آپ سے نہایت عالیشان تصانیفات و تالیفات صادر ہوئی ہیں  
 حضرت گیسو دراز حضرت سید اشرف جہانگیر کے معاصر تھے۔  
 حضرت جہانگیر نے حضرت گیسو دراز سے ملاقات بھی کی۔ دونوں  
 میں ابن عربی پر مباحثہ بھی ہوا۔ لیکن حضرت گیسو دراز ابن عربی  
 کی مخالفت میں اپنی رائے پر قائم رہے۔ حضرت جہانگیر نے اس واقعہ  
 کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بحث کی تفصیلات نہیں بیش کی ہیں۔  
 چنانچہ لکھتے ہیں:

"سیر اخیر التصانیفات حضرت میراست کہ در وحدت وجود مطلق  
 اند کی ایسا یہی به نسبت حضرت صاحب فصوص کردہ اند، فقیر تغییر مزاج

کرده بانواع دلائل عقلی و نقلی خاطر نشان حضرت میر نموده، فرجہ نیافت کہ در سیر آن اصلاح کرده آید" ۲۰ -

ترجمہ: "سیر (سیر النبی) (ص) آخری تصنیف حضرت میر (گیسو دراز) ہے کہ جس میں وحدت الوجود کے بارے میں صاحب فصوص کی طرف (معترضانہ) اشارہ کیا ہے۔ فقیر نے آپ کے نظریے میں تبدیلی کر لیئے بہت سے عقلی و نقلی دلائل پیش کیے لیکن آپ نے قبول نہیں کیا اور اس کتاب میں اصلاح نہیں کی" ۲۱ -

اس اختلاف کے باوجود حضرت سید اشرف جہانگیر حضرت گیسو دراز کے علوٰ مرتبت کے قائل ہیں۔ چونکہ حضرت اشرف جہانگیر خود ایک معاصر جلیل القدر صوفی تھے اس لیے حضرت گیسو دراز کے بارے میں آپ کا بیان نہایت درجہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:- "آنقدر حقایق و معارف کہ در خدمت وی بحصول پیوست از هیج مشائخ دیگر نیودہ، سبحان اللہ چہ جذبہ قوی داشته اند" ۲۱ -

ترجمہ: "جس قدر حقائق و معارف آپ سے حاصل ہوئے دوسرے مشائخ سے نہیں حاصل ہوئے۔ سبحان اللہ کیا جذبہ قوی رکھتے تھے" ۲۲ - حضرت گیسو دراز کی تحریروں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابن عربی سے ان کا اختلاف بھی محض لفظی ہے اور با اس سبب سے ہے کہ ابنیں ابن عربی کی تحریر سے جو مفہوم ہوا وہ قبل قبول نہ تھا۔ حضرت گیسو دراز کی کتاب "سیر النبی" (ص)، کا بتہ آپ نہیں چلتا، لیکن وحدت الوجود کے متعلق انہوں نے اپنے مختلف رسالوں میں بحث کی ہے۔ ان مباحث سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت گیسو دراز بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں اور وجود میں وہ تعینات اور فرق مراتب کے بھی قائل ہیں بقول جامی:

ہر مرتبہ در وجود حکمی دارد

گر فرق مراتب نکنی زندیقی

مندرجہ ذیل سطور میں یہ جائزہ لینا ہے کہ حضرت گیسو دراز نظریہ وحدت الوجود کو کس طرح پیش کرتے ہیں اور انہوں نے ابن عربی سے کس طرح اختلاف کیا ہے۔

حضرت گیسو دراز کے نزدیک وجود صرف عشق کا ہے۔ اُن کے نزدیک عاشق، معشوق اور عشق تینوں ایک ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شے اور تمام کائنات خدا کے نور سے مستنیر ہے۔ یہ نور لامحدود اور لامتناہی ہے۔ یہی نور ہے جو مختلف مراتب وجود میں پایا جاتا ہے

اسی کو خدا جل جلالہ، رسول (ص)، جبرئیل (ع)، میکائیل (ع)، اسرافیل (ع)، عزرائیل (ع)، بہشت، دوزخ، جن، انس، وحش، طیور، کفر اور اسلام کہتے ہیں، اسی کو دین و دنیا اور کعبہ و بستانہ کہتے ہیں۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ نور حقیقت میں ریح ہے جس کو روح کہتے ہیں کہ روح ریح سے مرکب ہے جیسے بہول میں خوشبو اور دودھ میں مسکہ۔

مندرجہ بالا مطالب ان کی کتاب "وجود العاشقین" کی مندرجہ ذیل عبارت سے ماخوذ ہیں:-

"بدانکه اے عزیز این نور حقیقت ریح است کہ آنرا روح نامند کہ الارواح مرکب من الریح یعنی دم بقدم آمیخته و یکی شده و یکی گشته است چنانکہ بوی گل در گل و مسکہ در شیر  
بنده باحق همچو شیر و روغن است آمیخته

این ہم شیر است و روغن ہم توئی لا یصررون

اماً حقیقت دم است کہ آنرا روح خوانند و نور گویند کما قال اللہ تعالیٰ  
اللہ نور السموات والارض، این ذرہ نور و روح را بعبارة و اشارت گفته  
شده است اماً بحقیقت نام و نشان ندارد، ذاتی است نامحدود و نامتناہی  
و بحری است بی پایان و بی کران و این ذات نور علی الدوام در تجلی  
خویش است۔

چون این شنیدی و دریافتی اکنون با ہوش بشنو و دریاب بدانکہ  
اے عزیز ہمین دم و قدم یعنی روح و ریح را خدا و رسول گویند، ظلمت  
و نور خوانند، دین و دنیا و کعبہ و بستانہ گویند

مسجد و دیرتوئی کعبہ و بستانہ یکی است

هو کجا گوش نہادم همه غوغای تو بود" ۲۲

حضرت گیسو دراز وجود مطلق اور وجود مقید کے قائل نہیں ہیں  
کیونکہ اس سے بھی دوئی کی بوآئی ہے۔ وجود جب صرف عشق کا  
ہے تو کوئی تخصیص کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مطلق و مقید جو کچھ  
بھی ہے انسان ہے۔ چونکہ انسان عام طور پر اپنے مقام سے یہ خبر ہے  
اس لیے یہ دوئی ہے۔ لکھتے ہیں:-

"اکنون بیین کہ تو عین بقائی بلکہ عین عشقی و مطلقی و مقیدی،  
مطلق جُز تو کسی نیست، فی الجملہ توئی کہ خود را بخود گذاشتی، دوئی  
و جدائی نیست" ۲۳

رسالہ "وجود العاشقین" میں عشق کے مراتب بیان کرتے ہیں۔ اس

میں بھی آخری مرتبہ وحدت کا ہے۔ اس میں اگرچہ وہ موجود مطلق کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کسی اصطلاحی معنی میں نہیں ہے:-

”عشق را پنج مرتبہ آورده اند اول شریعت یعنی شنیدن صفت جمال محبوب تاکہ شوق پیدا آید دوم طریقت یعنی طلب کردن محبوب و رفتن در راه محبوب سوم حقیقت یعنی حضور بودن دائم در حسن محبوب چہارم معرفت یعنی محو کردن مُراد خود را در مُراد محبوب پنجم وحدت یعنی وجود فانی خود را شکستن ہم در ظاہر و ہم در باطن، موجود مطلق داشتن ہمین محبوب را“ ۲۳۔

شرح رسالہ غوثیہ مسمی بہ ”جویر العشاق“ میں بھی جگہ جگہ حضرت گیسو دراز نے وحدت الوجود پر اظہار خیال کیا ہے۔ وحدت الوجود کے سلسلہ میں حضرت گیسو دراز کے ان بیانات کو بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ لکھتے ہیں:-

أَكَاهْ بَاشْ كَهْ مَا فِي الْوَجُودِ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي الدَّارِينَ غَيْرُ اللَّهِ ۖ ۲۵  
ترجمہ: آگاہ ہوجاؤ کہ وجود میں اللہ کرے سوا کوئی نہیں ہے اور دارین میں اللہ کا غیر کوئی نہیں ہے۔

تاکہ با خویشی عدد بینی ہمہ  
چون شوی فائی احمد بینی ہمہ  
در هر چہ بدیدیم ندیدیم بجز دوست  
معلوم چنین شد کہ دگر نیست ہمہ اوست ۲۶

اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں:-  
کان اللہ ولم يكن له معه شيءٌ و هو الا ان کما كان و هو لا يتغير بذاته  
ولا بصفاته ولا في افعاله ولا في اسمائه بحدودت الاکوان فلا يكون مع الله  
غیر الله

این جہان صورت است و معنی اوست  
ور بمعنى نظر کنی ہمہ اوست ۲۷  
مندرجہ بالا عربی عبارت کی شرح میں پھر لکھتے ہیں:-  
”میدانی کہ چہ میگویم؟ کہ او بود، نبود شے با او، و همچنانست او درین حال همچو او بود، او را تغییر در ذات و نہ در صفات و نہ در افعال و نہ در اسماء بہ پیدا کردن اکوان، پس نباشد با او غیر او... خدا ظاہر بجهان است و جہان قائم بخدای“

می نہائی حسن خود در ہر رخی نوعی دگر  
 چونکہ در معنی بیین واحد و یکسان تونی  
 تونی صورت تونی معنی که ہم مسجد و ہم دبیر  
 تونی در دل تونی در تن کہ ہم عشقی و ہم جانی ۲۸  
 ترجمہ: "تم جانتے ہو کہ میں کیا کہتا ہوں؟ کہ وہ تھا اور اس کے  
 ساتھ کچھ نہ تھا، وہ اسی طرح ہے جیسے کہ تھا اور کائنات کو پیدا  
 کرنے میں اس کی ذات یا صفات یا افعال یا اسماء میں کوئی تغیر نہ  
 ہوا، پس اس کے ساتھ اس کا غیر کوئی نہیں ہے ... خدا کائنات سے  
 ظاہر ہے اور کائنات خدا سے قائم ہے" -

اس اتحاد اور یکسانی کے باوجود حضرت گیسو دراز "من" و  
 "تو" میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ کرے لیے یہ کہنا جائز  
 نہیں کہ "من توام و تو منی" کیونکہ یہ خاصہ خدای تعالیٰ ہے۔ عاشق  
 و معشوق ہر چند اوصاف سے متعدد ہوں لیکن ان میں دو فرق قائم ہے  
 وہ یہ کہ خدا کی صفت ربوبیت و صفت الوہیت سے بندہ خالی ہے۔  
 صفت ربوبیت سے مراد یہاں صفت وجود و حجوب الوجود ہے اور الوہیت سے  
 مراد صفت قدم ہے جیسا کہ حضرت گیسو دراز اس کے بعد ہی لکھتے  
 ہیں کہ "وجودُنا منه و قيامُنا به" یعنی ہمارا وجود اسی سے ہے اور ہمارا  
 قیام اسی سے ہے۔ اگر بندہ "من تو شدم" کہتا ہے تو یہ اسی وقت  
 درست ہے کہ اس پر حال کی کیفیت طاری ہو جس کا مطلب یہ ہو گا  
 کہ اسے خود اپنی بی خبر نہ ہو۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو:

"من امن به قبیل ورود الحال و من رد حال اتحاده فقد کفر، یعنی  
 کسی کہ امن گرفت پیش از پیدا شدن حال پس تحقیق کفر کرد یعنی  
 امن گرفتن از آن اتحاد پیش از آنکہ پیدا شود حال فقد کفر یعنی تامادام  
 کہ معشوق عاشق را ہمنگ خود در کنار نگیرد و خود را انا و انت  
 نفرماید اگر عاشق خود را اتحاد داند فقد کفر زیرا کہ لا تامن من مکری  
 همین اشارت است، ترا گفتن نشاید کہ من تو ام و تو منی این خاصہ  
 اوست تعالیٰ زیرا کہ عاشق ہر چند کہ بمعشوق متصف باوصاف شود  
 لیکن از دو صفت خالی باشد، ازو کہتر ہم ... صفت ربانيہ و صفت  
 الوہیت وجودنا منه و قيامنا به، عاشق ہرگز معشوق نشود بعینہ، ای  
 دوست این مقام تلوین است کہ عاشق رنگ معشوق میگیرد نہ همین  
 معشوق میشود، اگر میشود معشوق در عاشق خود ظاہر میشود در  
 آنوقت عاشق نہاند ... ولیکن مولی مولی ست و بندہ بندہ . ۲۹

"جوابر العشاق" صاحب حال صوفیہ کرے لیے ہے۔ اس کی بہت سی عبارتیں دوسروں کے لیے ناقابل فہم بین ہم نے بھی بُ اشکال فقروں اور جملوں کو حذف کر دیا ہے۔

مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت گیسو دراز وجود میں تعینات کرے قائل ہیں اور مولیٰ اور بندہ میں فرق کرتے ہیں۔ "جوابر العشاق" میں ایک جگہ انہوں نے ہمہ اوست کرے بجائے ہمہ ازوست کا بھی اقرار کیا ہے لیکن اس سے بھی ان کی مراد وجود میں تعینات ہیں۔ لکھتے ہیں۔

هر نام کہ بجز نام خدای است غیر است، اگرچہ ازوست و لیکن نہ اوست"۔ ۳۰

وحدت الوجود کے ماننے میں سب سے بڑی دشواری یہ پیش آتی ہے کہ ثواب و عقاب کے مسئلہ کو کس طرح بیان کیا جائے۔ اس مسئلہ پر مختلف صوفیہ نے مختلف طریقوں سے بحث کی ہے حضرت گیسو دراز بھی اس کے قائل ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ مولانا روم نے خلق فعل اور کسب فعل پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ۳۱ لیکن حضرت گیسو دراز نے کلامی طرز نہیں اختیار کیا ہے۔ اس مسئلہ کا تعلق جبر و اختیار سے ہے جو کہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ حضرت گیسو دراز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو دوزخی تھا اس کے لیے دوزخیوں کے افعال پیدا کر دیے اور جو جنتی تھا اس کے لیے جنتیوں کے افعال۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔

"اہل سنت و جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین می فرمائیں کہ ہو تعالیٰ خالق الافعال العباد کما ہو خالق اعیانہم۔ اینجا گویند افعال عباد را خود آفرید، ثواب و عتاب آن چہ معنی دارد؟ محققان گویند ہر کہ او را برای دوزخ آفریدہ است در مظہر و افعال دوزخیان آفرید کذالک آنرا کہ برای بہشت آفرید است"۔ ۳۲

اگرچہ حضرت گیسو دراز نے خلق فعل اور کسب فعل پر کونی بحث نہیں کی ہے لیکن یہ کہنا کہ خدا نے معلوم کرے مطابق بی فعل کی تخلیق کی اور یہ معلوم وہ ہے جسے بندے کا کسب فعل کہتے ہیں یعنی بندہ کا کسب فعل خدا کے علم میں ہے اور اس کے مطابق اس نے خلق فعل کیا اور یہ چیز اہل سنت کے عقائد میں ہے۔ حضرت گیسو دراز کے فرزند سید اکبر حسینی (م ۸۱۲ھ) نے اس مسئلہ کیوضاحت تفصیل سے کی ہے جو ان کی کتاب العقاید میں موجود ہے۔ اس کتاب

کا علم خود حضرت گیسو دراز کو تھا اور وہ اپنے بیشے کی علمی اور روحانی فضیلت کے بھی معترف تھے (سیر محمدی)، اس لیے یہ باور کرنا چاہیے کہ اس کتاب میں مذکور عقاید حضرت گیسو دراز کے عقاید ہیں ۳۳۔ اس میں خلق فعل بربحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پس فعل عبد تحت قدرت باری آمد خلقاً و تحت قدرت عبد آمد کسباً۔“ ۳۳

اس سے معلوم ہوا کہ اکتساب فعل میں بندہ کو مختار بنایا گیا ہے اور قدرت اکتساب فعل کے سبب اُسے شریعت کا مکلف قرار دیا گیا ہے۔

حضرت گیسو دراز کا یہ قول نقل کیا جا چکا ہے کہ بندہ پر توحید کا رنگ خواہ کتنا بی خالب آجائی وہ صفت وجوب و صفت قدم (اربوبیت و الوہیت) سے خالی رہتا ہے اور بندہ بندہ ربta ہے، خدا خدا، دوسرو یہ کہ خدا اکرچہ خالق فعل ہے لیکن اکتساب فعل میں بندہ کو مختار بنایا ہے اس لیے بندہ اپنے اختیار سے نیکی یا بدی کسب کرتا ہے اور مورد ثواب و عقاب ہوتا ہے۔

لیکن آخر کار حضرت گیسو دراز بھی اقرار کرتے ہیں کہ خدا کی ذات و صفات کے کامل ادراک سے مخلوق عاجز ہے اور شیخ فرید الدین عطار کے اشعار تائید میں نقل کرتے ہیں:-

سبحان خالقی کے صفاتش زکریا  
در عجز خاک میفگند عقل انیاء  
گر صد هزار قرن همه خلق کائنات  
فکرت کنند در صفت عزت خدا  
آخر بعجز معترف آئند کای اللہ  
دانسته شد کہ هیچ ندانسته ایم ما

یہاں یہ بیان کردیتا بھی مناسب ہے کہ جب بندہ اور خدا میں کامل اتحاد ناممکن ہے تو سلوک میں وصل سے کیا مراد ہے اور انا الحق یا سبحانی ما اعظم شانی کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت گیسو دراز اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں:

”وصول عبارت از شعوری خاصی است، یقین گردد تونہ اوست۔“

۳۵

یعنی وصول ایک طرح کا خاص شعور ہے جس میں سالک کو یہ

یقین حاصل ہوتا ہے کہ اس کا وجود کچھ نہیں ہے بلکہ درحقیقت وجود صرف خدا کا ہے بالفاظ دیگر اسے اپنی ذات کا شعور باقی نہیں رہتا اس کو تمثیل کی طور پر کہتے ہیں کہ قطرہ دریا میں مل گیا حالانکہ درحقیقت قطرہ دریا میں نہیں ملتا بلکہ قطرہ، قطرہ رہتا ہے اور دریا دریا، البتہ قطرہ کو اپنے وجود کا احساس نہیں رہتا۔

بہر لکھتے ہیں کہ "واصل آن بود کہ تصور فصل شود" ۳۶

واصل اسے کہتے ہیں کہ اگر سالک کو اپنے وصل کا تصویر ہو جائے تو یہ وصل نہ ہو گا بلکہ فصل ہو گا یعنی وصل کی حالت میں اسے وصل کا تصویر بھی نہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت گیسو دراز منصور کے انا الحق اور بايزيد کے سبحانی ما اعظم شانی کو ان کی کم نظری کا سبب بنتا ہے یہ لوگ سلوک کی بلند تر منزل تک نہ پہنچ سکے ہرچند کہ یہ لوگ فیض الہی سے محروم نہیں ہیں۔ ایک مکتب میں لکھتے ہیں:

"منصور انا الحق گفت و بايزيد سبحانی، هرچند این انا الحق حق نیست و سبحانی از جہان انسانی است و لکن از آن شمس و قمر و از آن شمع انور پرتوی بروی تافتہ است" ۳۷

حضرت گیسو دراز کے ان بیانات سے یہ بخوبی واضح ہے کہ وہ بھی صرف ایک وجود کے قائل ہیں۔ اس وجود کو وہ عشق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ وجود میں وحدت کے باوجود وہ عبد اور معبد میں فرق کرتے ہیں اور وجود میں تعینات کے قائل ہیں اور ثواب و عقاب کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ابن عربی سے مخالفت کس طرح ہے یہ اختلاف "حدائق الانس" کی مندرجہ ذیل عبارت سے ظاہر ہے:-

"شخصی باشد کہ او را کشوفات تجلیات متواںی است ساعتی از آن فرصت نیست تا آنکہ او بداند و رای این چیزی دیگر نیست تا آنکہ قائل بمطلق و مقید شود و با جمال و تفصیل گراید و جزئی و کلی گوید او بمثال کلی طبیعی است، او را در خارج وجودی نیست، او در ضمن جزئیات موجود است چنانچہ محی الدین ابن عربی و قاضی عین القضاۃ و حکمای یونان و آنکہ متابعاً ایشان اند" ۳۹

ترجمہ: "ایک شخص ایسا ہے کہ اُس پر یہ دریے تجلیات کا کشف ہو رہا ہے، ایک لمحہ کے لیے اسے فرصت نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے ایسا

شعور ہوتا ہے کہ اس کے معاوراء کوئی اور وجود نہیں ہے اور بھر وہ مطلق و مقید کا قائل ہو جاتا ہے اور اجمال، تفصیل، جزئی و کلی کی باتیں کرتا ہے۔ وہ کلی طبیعی کی طرح ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ جزئیات کے ضمن میں موجود ہے مثلاً ابن عربی، قاضی عین القضاۃ اور حکماء یونان اور ان کے اتباع ۔۔۔

اس بیان میں ابن عربی اور حکماء یونان کو ایک ہی سلسلہ میں ملا دیا ہے لیکن کم از کم اس بیان سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت گیسو دراز ابن عربی کے صاحب کشف ہونے کے قائل ہیں البتہ ان کے نزدیک اس کشف کی توجیہ میں انہوں نے حکماء یونان کی پیروی کی ہے۔ یہاں ابن عربی سے اختلاف کی نوعیت ظاہر ہو جاتی ہے یعنی یہ کہنا کہ خارج میں (موجودات کے معاوراء) کوئی وجود نہیں ہے درست نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وجود کے لیے مقید و مطلق کی شرط لگانا بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ پچھلے صفحات میں گذر چکی ہے یعنی وجود جب صرف عشق کا ہے تو اس میں مقید و مطلق یا خارج و باطن کی شرط لگانا درست نہیں ہے۔

اس سے یہ بھی بتہ چلتا ہے کہ حضرت گیسو دراز کو ابن عربی کے بیان سے جو مفہوم ہوا وہ یہ ہے کہ ابن عربی نے ذات مطلق کو مقید کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مطلق کی اصطلاح کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک جس کو مقید کہتے ہیں وہی مطلق ہے چنانچہ پچھلے صفحات میں گذرا کہ انہوں نے خود انسان ہی کو مطلق و مقید کہا ہے۔ اسی لیے وہ ابن عربی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابن عربی کے نزدیک وجود مقید کے معاوراء کوئی وجود نہیں ہے گویا ابن عربی نے ذات مطلق کو مقید کر دیا ہے۔ اس کا اظہار دوسری تحریروں میں بھی کیا ہے۔ "استقامت الشریعت" میں لکھتے ہیں۔

"چون این دانستی محی الدین و اتباع او و محققان دیگر کہ یہ وجود گفتند ممثل بدین ہمه وجودات است، این جہان و آن جہان، باہمہ نعیم و اسیاب ... یک وجود است و ورای آن وجودی نہ . اما محمد حسینی کہ مستنیر از نور مرتضوی و مستضی از ضیای مصطفوی است می گوید باین ہمه وجود است کہ آری فیض اوست تعالیٰ بھمہ صور و اشکال خود بجنب آن وجود و بحساب آن ذات بصد هزار مرتبہ کمر از شبتمی بمقابل دریای محيط و هفت دریای قلزم باشد ... " . ۳۰

ترجمہ: "جب تم نے یہ جان لیا کہ محی الدین ابن عربی اور ان کے

اتباع اور دوسرے محققین نے ایک وجود کہا جو کہ ان تمام موجودات میں ممثلاً ہے، یہ دنیا اور وہ دنیا اپنے تمام اسباب کے ساتھ صرف ایک وجود ہے اور اس کے خارج میں کوئی وجود نہیں ہے تو اب جان لو کہ محمد حسینی جو نور مرتضوی سے مستینیر اور ضیائے مصطفوی سے مستضی ہے کہتا ہے کہ ان تمام موجودات کے علاوہ وجود ہے اور یہ موجودات اس ذات کے مقابل ایسی ہیں جیسے سمندر کے سامنے شبنم کا ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم ... ” - اسی کتاب میں لکھتے ہیں:

”این محروم ان از چه وہم گویند و رای این موجودات وجودی نیست“ ۳۱

ترجمہ: ”یہ محروم ان کس وہم کی بناء پر کہتے ہیں کہ ان موجودات کے خارج میں کوئی وجود نہیں ہے“ -

جیسا کہ کہا جا چکا ہے حضرت گیسو دراز نے ابن عربی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ابن عربی کی اصطلاح وجود مطلق اور وجود مقید سے جو انہیں مفہوم ہوا ہے اس کی بناء پر لکھا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ابن عربی نے ذات مطلق کو مقید ہرگز نہیں کہا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ دونوں کا اختلاف حقیقی نہیں ہے اور حضرت گیسو دراز بھی وحدت الوجود بھی کے قائل ہیں -

ابن عربی نے جس روحانی تجربہ کو بیان کرنے کے لیے اعیان ثابتہ اور مطلق و مقید وغیرہ اصطلاحات کا سپارا لیا ہے تاکہ ایک ناقابل بیان شے کو نظری طور پر لفظوں کا پیرا بن عطا کرسکیں، حضرت گیسو دراز اپنے جذبہ عشق سے حاصل کردہ اس ناقابل بیان روحانی تجربہ کو عشق سے تعبیر کر کے مسئلہ کو ختم کر دیتے ہیں لیکن دونوں ایک بھی وجود کے قائل ہیں -

اس حقیقت کا اظہار سب سے پہلے حضرت سید اشرف جہانگیر کوچکی تھے کہ شیخ علاء الدولہ سسنانی اور ابن عربی میں اختلاف حقیقی نہ تھا جسیا کہ پچھلے صفحات میں گذرا۔ حضرت گیسو دراز کے بارے میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ موجودہ دور میں ڈاکٹر میر ولی الدین نے اپنی کتاب ”خواجہ بندہ نواز کا تصوف و سلوک“ میں اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ حضرت گیسو دراز وحدت الوجود کے قائل تھے لیکن حضرت گیسو دراز کی مخالفت بھی بڑی شدت سے ہونی ہے چنانچہ عبدالقدار فخری

مہربان ۳۲ نویں اپنی کتاب "اصل الاصول" میں حضرت گیسو دراز پر ان کی ابن عربی سے مخالفت کرے سبب شدید نکتہ چینی کی ہے اور اب بھی یہ ممکن ہے کہ یہ خیال پایا جاتا ہو کہ شیخ علاء الدولہ سمنانی اور حضرت گیسو دراز وحدت الوجود کے منکر نہیں کیونکہ انہوں نے ابن عربی کی مخالفت کی ہے لیکن اس بحث سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کو اصل نظریہ وحدت الوجود سے اختلاف نہ تھا بلکہ ان کا اختلاف محض لفظی تھا۔ اس بحث سے ایک نہایت ابہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوفیہ کے یہاں کشف وجود میں حقیقی توافق پایا جاتا ہے البتہ ایک بی حقیقت کی توجیہات پیش کرنے میں بیان میں اختلاف پایا جانا ممکن ہے لیکن اس ظاہری اختلاف سے صوفیہ کے روحانی تجربیات میں عدم توافق پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اس بحث سے ابن عربی کے تجربہ کی صداقت کی بھی مزید توثیق ہوتی ہے۔

## حوالہ و توضیحات

۱ - لطیف اشری: اس کا اصل نام اللطیف الاشرفیہ فی بیان طوائف الصوفیہ ہے لیکن لطیف اشری کے نام سے معروف ہے۔ سید اشرف جانگیر سمنانی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے ان کے مربد و خلیفہ نظام غریب یعنی نے جمع کیا تھا۔ یہ مسائل تصوف پر ایک ضخیم کتاب ہے اسکے علاوہ ہندوستان کی تاریخی، تمدنی اور ادبی معلومات کا بھی ایک دلچسپ مأخذ ہے۔ یہ کتاب دو بار چھپ چکی ہے۔ پہلی بار سنہ ۱۲۹۵ھ میں مطبع نصرت المطابع دہلی سے ایک مجلد میں شائع ہوئی اور دوسرا بار سنہ ۱۲۹۸ھ میں دو مجلد میں اسی مطبع سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب تصوف کی بہت سی کتابوں کا مأخذ رہی ہے اور کتاب نفحات الانس مؤلفہ جامی کا بھی ایک ابہ مأخذ ہے۔ (ابیکھیہ مقدمہ لطیف اشری)۔

۲ - لطیف اشری کے مقدمہ بعنوان "در بیان فوائد علم و مطالعہ کتب صوفیہ و استیاع کلمات مشائخ و شرایط و آداب استیاع آن" میں نظام غریب یعنی ایک جگہ لکھتے ہیں۔  
 "حضرت قدوة الکبری تقریباً میفرمودند کہ در بخارا علماء ظاہر و فضلاء باز بجهت سوختن فصوص فتوی نوشته بودند، نزدیک بود کہ امور زیارت فردا بسوزند. همدرین روزہ داشتمدنی فاضل و عالم عامل کہ بلباس فصاحت آرائسته و کیاس بلاعث بپرسته و فنون علو ورزیدہ و قانون رسوم سنجدید ہو دی، چنانچہ ہر یک از علمای بخارا و فضلائی شہر پاستقبال او در آمدند و یہ تعظیم تمام در شہر آوردند، قضیہ استثناء پایشان عرض نمودند. فرمودند کہ من این کتاب را ندیدہ ام و چیزی را کہ ندیدہ باشم و بمعانی او نرسیدہ چکونہ در سوختن او حکم کنم۔ کتاب از جانی تردد کردہ پایشان نمودند. چند روز بتفکر شافی و تدقیق صافی در مطالعہ در آوردند، علماء شہر باز باعث شدند و اجازت سوختن فصوص خواستند. فرمودند معانی را کہ در ضمیر خود تصویر میکنم، در سعیر تدویر بآن نمی رسد کہ ویرا بسوزند و حقایقی کہ در فکر من نمی رسد چکونہ فرمایم کہ بسوزند"۔

۳ - صانع الدین علی بن محمد تُرک اصفہان میں نیمه دوم قرن پشتہ بجری میں ایک علی گھرانے میں پیدا ہوئی اور ویسے سنہ ۸۳۵ھ یا ۸۳۶ھ میں وفات پائی۔ تقریباً سالہ کتابوں اور

رسائل کے مصنف بین۔ مسئلہ وحدت الوجود بر ان کی اہم کتاب "تمہید القواعد" ہے جو عربی زبان میں ہے سید جلال الدین آشتیانی نے اس پر ایک فاضلانہ مقدمہ لکھا اور سنہ ۱۳۹۶ھ میں انجمن للسلفہ ایران نے کتاب کو مع مقدمہ شائع کیا۔ سید حسین نصر نے اس کتاب کے پیشگفتار میں صانع الدین ترکہ کے حالات پر کئی کتابوں اور رسائل کا ذکر کیا ہے۔

۲۔ مخدوم علی میانی کا نام علاء الدین علی بن احمد ہے۔ کہتے ابو الحسن، لقب زین الدین، فقیہ اور مخدوم ہے۔ آباء و اجداد حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ اکر عرب سے ترقیا سنہ ۲۵۲ھ میں هندوستان آگئے اور ماہیں میں مقبرہ ہو گئے۔ بیہار درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور رشد و ہدایت علوم کے بعد ماہیں کے قاضی مقبرہ ہو گئے۔ بیہار درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ متعدد کتابوں کے مصنف بین۔ تفسیر قرآن آپ کا عظیم الشان علمی شاہکار ہے۔ تصوف اور وحدت الوجود بر آپ کی متعدد کتابیں اور رسائل بین۔ فصوص الحکم کی شرح بھی لکھی۔ سنہ ۸۳۵ھ میں وفات پائی اور ماہیں کے قبرستان میں سرہ خاک ہوئے۔ (کتاب مخدوم علی میانی حیات، افکار، اثار)۔

۵۔ سید اشرف جہانگیر سمعانی سنہ ۷۰۹ھ کے حدود میں سمعانی میں ایک شاہی گھرانے میں بیدا ہوئے۔ جہانگیر آپ کا لقب ہے جو آپ کے مرشد نے آپ کو دیا تھا۔ فرمائروائی کے ساتھ آپ تصوف و سلوک میں بھی مشغول رہے۔ بچیں سال کی عمر میں ترک سلطنت کو کیا باشارہ غبیبی هندوستان آئی اور بنگال میں شیخ علاء الدین خالدی بندوی (متوفی ۸۰۰ھ) کے مرید ہو گئے اور ریاضت و مجاہدہ کے بعد خلافت پائی۔ شیخ کے حکم سے کچھو جہہ شریف کو اپنا مرکزی مقام بنانا جو اُس وقت جونپور میں تھا۔ خوشگو شاعر تھے اور متعدد کتابوں کے مصنف۔ (تفصیل کر لی دیکھئی حیات سید اشرف جہانگیر سمعانی)۔

۶۔ آنہوں صدی پھری میں ابن عربی کے موافقین میں اور بھی بہت سے صوفیہ تھے مثلاً سید شرف الدین دبلوی (۹۵۷ھ)، شیخ شمس الدین دبلوی (۹۷۷ھ)، شیخ موبد الدین جندی شاگرد شیخ صدر الدین قوتیو، ابن الرمکانی کمال الدین انصاری (۷۲۷ھ)، سید علی بدمانی (۷۸۶ھ)، شیخ داؤد قیصری (۷۵۱ھ) وغیرہ۔ لیکن ابن عربی کے مخالفین صوفیہ میں بھی بہ دد ایم زین نام معلوم ہوئے بین جن کی تحریریں بھی بیمار سامنے بین یعنی شیخ علاء الدولہ سمعانی اور سید محمد گیسو دراز۔

۷۔ العروہ لاہل الجلوہ والخلوہ کا ایک قلمی نسخہ علی گڑہ ہونیورسٹی کی مولانا ابو الكلام آزاد لاتریبری میں ہے، دوسرा نسخہ دیوان صاحب باع مدرس میں ہے اور تیسرا نسخہ کی اطلاع آقان عبدالرفع حقیقت نے کتاب جہل مجلس کے مقدمہ میں دی ہے۔ ۱۳۰۲ھ میں یہ کتاب باہتمام نجیب مایل ہروی تہران سے شائع ہو گئی ہے۔ داشت ۱۔

۸۔ العروہ کے علاوہ شیخ علاء الدولہ سمعانی کے حالات میں آقائی سید مظفر صدر نے ایک کتاب تہران سے شائع کی ہے۔ اس کے علاوہ آقائی عبدالرفع حقیقت نے جہل مجلس کے مقدمہ میں کچھ حالات قلبیں کیے ہیں۔ رقم کے پیش نظر یہ دونوں کتابیں بین ۱۔ نجیب مایل ہروی کنی سالوں سے شیخ سمعانی کے احوال و اثار و افکار پر کام کر رہے ہیں۔ "العروہ ... " کے مقدمہ میں آنہوں نے اپنے تأملات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ داشت ۱۔

۹۔ حیات سید اشرف جہانگیر ص ۱۱۷۔

۱۰۔ لطایف اشرق لطیفہ ۲۷۔ ۱ نیز دیکھئی: نفحات الانس از جامی طبع توحیدی ہور تہران ص ۹۱۔ ۸۳۴ داشت ۱۔

۱۱۔ لطایف اشرق لطیفہ ۲۷۔

۱۲۔ معراج اول اور معراج دوم کا بیان جہل مجلس ص ۱۳۷ میں موجود ہے۔ لطایف اشرق اور جہل مجلس کی عبارت تقریباً یکسان ہے۔ لطایف اشرق کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر علاء الدولہ کی مجلس میں موجود تھے۔

معراج اول و معراج دوم۔ بیہار معراج سے مُراد غالباً سالک کے سلوک کی انتہا ہے۔ ایک انتہا

وہ ہے جس میں سالک محسوس کرتا ہے کہ سوانح خدا کی وجود کی اور کوئی بجز موجود نہیں ہے۔ گویا یہ وہ صورت ہونی جیکہ کوئی وجود نہ تھا سوانح خدا کی۔ (اکان اللہ و لم یکن معہ شی) سالک کی دوسری انتباہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ ممکن کی موجودہ ہونی سے واجب الوجود میں کوئی تغیر نہیں ہوا یعنی وہی ہر شے میں ہے اور ممکن محض ظاہری نہود ہے۔ یہ وہ صورت ہونی جس کو الان کہا کہا ہے۔ یہ نہایت دقیق مستہلہ ہے جیسا کہ شیخ علامہ الدولہ سعٹانی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ توجیہ راقم نے اپنی طرف سے کی ہے۔ شیخ علامہ الدولہ سعٹانی کی واقعی کیا مُراد ہے اس بارے میں کوئیوضاحت نہ مل سکی۔

- ۱۳۔ لطیف اشرق لطیفہ ۲۴۔
- ۱۳۔ العروہ (خطی) ورق ۲۲۔
- ۱۵۔ لطیف اشرق ج ۲، ص ۱۲۰۔
- ۱۶۔ چہل مجلس ص ۱۲۰۔
- ۱۷۔ چہل مجلس ص ۱۲۵۔
- ۱۸۔ فیروز شاہ بہمنی اور احمد شاہ بہمنی کی سانہ حضرت گیسو دراز کے تعلقات بر دیکھئے کتاب: دکن کی بہمنی سلاطین ص ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۱۔
- ۱۹۔ سیر محمدی۔
- ۲۰۔ مکوبات اشرق مکتب ۳۲۔
- ۲۱۔ لطیف اشرق لطیفہ ۱۵۔
- ۲۲۔ وجود العاشقین۔
- ۲۳۔ ایضاً۔
- ۲۴۔ ایضاً۔
- ۲۵۔ جواہر العشاق ص ۷۔
- ۲۶۔ جواہر العشاق ص ۲۹۔
- ۲۷۔ جواہر العشاق ص ۲۹۔
- ۲۸۔ ایضاً ص ۳۰۔
- ۲۹۔ جواہر العشاق ص ۶۔
- ۳۰۔ مولانا روم کی نظریہ کسب فعل اور خلق فعل کو مولانا محمد عبدالسلام خان نے اپنی کتاب افکار مولانا روم میں تفصیل کی سانہ بیان کیا ہے۔
- ۳۱۔ رسالہ مسئلہ رویت باری و کرامت اولیاء۔
- ۳۲۔ "کتاب العقاید" کی مقدمہ میں مرتب سید عطا حسین لکھتے ہیں:

"لذکرہ نویسون نے لکھا ہے کہ حضرت خواجه بندہ نواز قدس سرہ نے عقاید اہل سنت میں ایک رسالہ خود تصنیف کرنا چاہا تھا مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی فرزند اکبر نے عقاید میں ایک رسالہ لکھنا شروع کر دیا ہے تو خود اپنے ارادے کو ترک کر دیا اور فرمایا کہ محمد اکبر حسینی کی کتاب کافی ہو گی چنانچہ جب یہ کتاب تکمیل کی بعد حضرت بندہ نواز کے نظر مبارک میں بیش کی گئی تو شرف فیoul سے ممتاز ہوتی ہے۔"

- ۳۳۔ رسالہ عقاید ص ۳۳۔
- ۳۴۔ استقامت الشریعت بطريق الحقیقت ص ۶۔
- ۳۵۔ مکتب دوم بجانب مولانا محمد معلم۔
- ۳۶۔ حضرت سید محمد گیسو دراز نے وجود، رویت باری اور ثواب و عقاب جیسے نازک مسائل پر لکھا ہے۔ ان مسائل پر اُن کی تحریروں میں دو مختلف انداز بیان ملتے ہیں۔ ایک انداز تحریر وہ ہے جس پر حالی کیفیت چھائی ہوتی ہے اور بیان غامض ہے با جس میں انداز بیان تمثیل اور استعاراتی ہے با وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو بالمعوم شعراء اختیار کرتے ہیں۔ بہار جو معنی ہے اگر دبی مُراد بھی لی جائے تو اس سے شرعی الزام عابد ہوتا ہے اور بیان بظاہر اسلامی عقیدت کے خلاف نظر آتا ہے مثلاً قطرہ دریا میں مل گیا یا خدا رسول، کفر و اسلام اور کعبہ و بنخانہ کو ایک بھی

قرار دینا درست نہیں ہو سکتا اور نہ یہ صرفہ کا غلبہ ہے۔ لیکن دوسرے انداز بیان میں حضرت گیسو دراز نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس میں جو معنی ہے وہی مراد یہی ہے اور اس کو مانعہ میں کوئی شرعاً قباحت لازم نہیں آتی۔ یہ بیان واضح ہے۔ مثلاً بنده کتنا بھی روحانی ترقی کر جائے وہ بنده بھی ریتا ہے اور خدا خدا ہے۔ وصل سے مراد حلول و اتحاد تبیین ہے بلکہ یہ ایک قسم کا روحانی شعور ہے وغیرہ، وغیرہ جیسا کہ بچھلے اوراق میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ایسی صورت میں وہی بیان لائق دلیل ہے جس میں معنی و مراد یکساں ہیں اور جس بیان میں اختلاض ہے اور معنی و مراد یکساں نہیں ہیں اس کی تاویل اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ واضح بیان کے مطابق ہو جائے۔ اس بارے میں غیر محظوظ رویہ غلط فہمی اور اشکال کا سبب بن سکتا ہے۔

۳۹۔ حدائق الانس حدائقہ هفتم

۴۰۔ استقامت الشریعت ص ۲۲.

۴۱۔ ایضاً ص ۲۲.

۴۲۔ سید عبدالقدار فخری میربان کی والد سید شریف الدین محمد خان نقوی اور نگ آباد کی قاضی تھی۔ سنہ ۱۱۳۲ھ میں بھیں سید عبدالقدار فخری بیدا ہوتی۔ وقت کے مشہور علماء سے اور نگ آباد میں تعلیم ہاتی۔ ادب و حدیث میں مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کی شاگرد ہیں۔ خوشگو شاعر تھی۔ اپنے ماموں فخر الدین سے تصوف و سلوک سیکھا اور انہیں سے بیعت و خلافت حاصل کی۔ والد کی انتقال کے بعد کچھ دنوں اور نگ آباد میں عبیدہ قضاہ پر فائز رہے۔ ۱۱۸۳ھ میں مدرس اکٹھی۔ بہار نواب امیر الامراء نے ان کی پذیرانی کی۔ بہار تصنیف و تالیف اور رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئی۔ وحدت الوجود بر اصل الاصول ان کی اہم کتاب یہ جو سات سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی علاوہ بھی چند تصنیفات بھیں جن میں "سبحات" اور مفتاح المعارف" خاص بھیں جو راقم کی نظر سے گذرا ہیں۔ "اصل الاصول" کی علاوہ ان کی ساری کتابیں اور دیوان شعر بھی غیر مطبوعہ ہے۔ "اصل الاصول" کامن مدرس یونیورسٹی نے عرصہ ہوا شائع کیا تھا۔ سید عبدالقدار فخری کی حالات میں مولوی محمد یوسف کوئن نے ایک مقدمہ بھی کتاب میں شامل کیا ہے۔ سید فخر الدین کی حالات میں مناقب فخریہ کا فلمی نسخہ مسلم یونیورسٹی علیگڑہ کی لاہوری میں ہے۔ سید عبدالقدار فخری کا ذکر "خزانہ عامہ" میں بھی ہے۔

## کتابیات

- ۱۔ استقامت الشریعت از سید محمد گیسو دراز.
- ۲۔ اصل الاصول از سید عبدالقدار فخری، مدرس یونیورسٹی، ۱۹۵۹ء۔
- ۳۔ افکار مولانا روم از مولانا محمد عبدالسلام، مکتبہ جامعہ، نئی دہلی، ۱۹۸۱ء۔
- ۴۔ تمہید القواعد از صائب الدین علی بن محمد ترک، بتصحیح و مقدمہ سید جلال الدین آشتیانی، تهران، ۱۹۶۶ء۔
- ۵۔ جواهر العشق از سید محمد گیسو دراز، مطبوعہ حیدر آباد دکن، ۱۳۹۲ھ۔
- ۶۔ جبل مجلس ملقوظات شیخ علامہ سنانی، باہتمام عبدالرائع حقیقت، مطبوعہ شرکت مؤلفان و مترجمان، ۱۳۵۸ش، تهران۔
- ۷۔ حدائق الانس - نمبر ۱۱ سے ۱۳ چند اوراق کے رسالے بھیں جو سید عطا حسین کی کوشش سے چھپ چکے ہیں۔
- ۸۔ حیات سید اشرف جبانگیر سنانی از سید وحید اشرف، مطبوعہ ۱۹۷۵ء، لکھنؤ،
- ۹۔ خواجہ بنده نواز کا تصوف اور سلوک از اکثر میر ولی الدین، ندوۃ المصطفیٰ دہلی، ۱۹۶۶ء۔
- ۱۰۔ دکن کے بہمنی سلاطین از ہارون خان شہروانی، ترقی اردو بیورو نئی دہلی۔

- ۱۱- سیر محمدی از سید محمد گیسو دراز، مع اردو ترجمه از مولانا محمد علی سامانی، سید محمد گیسو دراز اکادمی گلبرگه شریف، ۱۹۸۲.
- ۱۲- شرح احوال و افکار و آثار شیعی علامه الدوله سمنانی از سید مظفر صدر، چاپ دانش، تهران، ۱۳۴۷ هش.
- ۱۳- العروة لا بل الجلوة و الخلوة (خطی)، مسلم یونیورسٹی علیگڑہ لاتریری، حبیب ۵۸/۲۱.
- ۱۴- کتاب العقاید از سید اکبر حسینی ناشر کتب خانه روضتن گلبرگه شریف سنه ۱۳۶۶ ه.
- ۱۵- طایف اشرف ملفوظات سید اشرف جهانگیر، گردآورده نظام غریب یعنی، مطبوعه ۱۲۹۸ ه دهلی.
- ۱۶- مخدوم علی مهانی (جیات، آثار و افکار) از عبدالرحمن برراز اصلاحی، نقش کوکن تریست، ۱۹۷۶.
- ۱۷- مستله رویت باری و کرامات اولیاء از سید محمد گیسو دراز.
- ۱۸- مقدمه طایف اشرف (فارسی) از سید وحدت اشرف، مطبوعه مباراجه سیاهی راز یونیورسٹی بروده، ۱۹۷۵.
- ۱۹- مکتوبات اشرف (خطی) سید اشرف جهانگیر سمنانی، مسلم یونیورسٹی علیگڑہ.
- ۲۰- مکتوبات سید محمد گیسو دراز، مطبوعه برقی برس حیدر آباد دک، ۱۳۶۷ ه.
- ۲۱- مناقب فخریه (خطی) از عازی الدین خان فیروز چنگ، مسلم یونیورسٹی لاتریری علی گلبرگه حبیب ۱۵۸/۲۲. مناقب فخریه چھپ چکی ہے لیکن نایاب ہے۔
- ۲۲- وجود العاشقین از سید محمد گیسو دراز.

شیخ الاسلام شهاب الدین عمر سهروردی صاحب عوارف المعارف، چون  
به شام امدند ملاقات شیخ (ابن عربی) کردند فاما میان ایشان مکالمه و  
مخاطبیه واقع نشد. دو ساعت تجوییں چنین نشستند، آنگاه مفارقت کردند.  
بعد از آن جماعتی از شیخ الاسلام شهاب الدین سهروردی پرسیدند که: شیخ  
معی الدین ابن عربی را چون دیدی؟ شیخ شهاب الدین فرمود که: رأیتہ  
بعرا لا ساحل له. و در روایتی آمده که: رأیتہ بحر الحقائق. و از شیخ معن  
الدین پرسیدند که: شیخ شهاب الدین را چون دیدی؟ شیخ معی الدین فرمود  
که: رأیتہ رجلاً مملوّاً من السنة من فرقة الى تدمه. و در روایتی آمده که:  
رأیتہ طشتاً من ذهبٍ مملوّاً من السنة.

الجانب الغربي في حل مشكلات الشیخ معی الدین ابن عربی از شیخ  
مکنی)

عارف نوشادی

## کتابوں پر نقد و نظر

○ اس کتابوں پر تبصرہ کیا جانا ہر جن کا تعلق فارسی زبان ، ادب اور

تہذیب سے ہو -

○ تبصرہ کر لئے دو نسخے مہیا کیے جائیں -

### \* آداب الطالبین مع رفیق الطلاب والباب ثلاٹہ (اردو)

تألیف: حضرت شیخ محمد چشتی گجراتی (م ۱۰۳۰ھ)،

ترجمہ: ڈاکٹر محمد بشیر حسین ۔

جمع و تدوین: ڈاکٹر محمد اسلم رانا

بروگریسو بُکس ، ۳۰-بی، اردو بازار، لاہور ۔

۱۲۸ ص ، ۱۹۸۳ء ، ۲۱ روپے ۔

اخلاق و تصوف کے تین فارسی رسائل کا اردو ترجمہ ہے ۔ بہتر ہے اس موقع پر اس کتاب کے حوالے سے ڈاکٹر محمد بشیر حسین مرحوم کی یاد تازہ کری جائے ۔ وہ جامعہ پنجاب لاہور میں مسند ہجویری کے استاد تھے ۔ زندگی کا بیشتر حصہ مخطوطات شناسی میں گذارا ۔ مرحوم مولوی محمد شفیع کے ذخیرہ مخطوطات کی تفصیل اور مرحوم بروفیسر محمود شیرانی کے مخطوطات فارسی مخزونہ دانشگاہ پنجاب کی اجتیال فہرست مرتب اور شائع کی ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بعد مرحوم بشیر حسین بی تھے جو جامعہ پنجاب کے مخطوطات کو کتب اور مقالات کے ذریعے متعارف کرنے رہتے تھے ۔ اب یہ سلسلہ رک گیا ہے ۔ دنیا کے بر مؤقر کتب خانے کا اعزاز صرف اس کے باہم عمدہ مخطوطات ہونے ہو ہی منحصر نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاس ایک ماہر کتاب شناس کا ہونا بھی باعث فخر ہوتا ہے ۔ امید ہے جامعہ پنجاب اس کمی کو جلد

پورا کرلے گی -

\* از حرف تا بحرف  
سروده محمد عصام عظیم آبادی  
شیمی بیلی کیشنز، ۱۷/۸، بلاک ۳، گلشن اقبال، کراچی  
۲۸۸ ص، ۱۹۸۶ء، ۶۰ روپیہ .

آیا مایهٔ حیرت و استعجاب نیست و سرمایهٔ بسی افتخار نمی باشد.  
در کشوری که زبان مردم آن غیر از زبان شیرین و دلنشیں فارسی است  
شعرائی هستند که یان زبان شعر میسرایند و از آن دیوانهایی بوجود  
می‌آورند که مشتری ندارد و آیا شکفت اور نیست که ناشرانی برای چاپ  
و انتشار آن کمر همت برمنی بندند.

"از حرف تا بحرف" نام دیوان شعر فارسی است و انتشار دهنده آن  
شاعری است بنام محمد عصام عظیم آبادی . درباره "از حرف تا  
حرف" استاد سخن حضرت رئیس امروهی چنین اظهار نظر کرده  
است . "آقای محمد عصام نهاینده شعر کهنه و در شعر گفتن دارای  
سبکی مخصوص بخودش است . در شعروی، نفوذ و تاثرات محلی  
مشهود است . شاید ایرانیها آنرا مورد پسند خود قرار ندهند لکن ما لمجه  
فارسی خود را می پسندیم " .

آقای بیر علی محمد راشدی، (برادر بزرگ مرحوم حسام الدین  
راشدی) نوشه است که " آقای عصام با انتشار دادن مجموعهٔ شعر  
زیبایی خوش خدمتی بزرگ کرده است " .

خود آقای عصام دربارهٔ شعر خود میگوید. "در باب شاعری ما حرفی  
نه داریم بجز آن که فارسی ما چونکه پاکستانی نزاد است لهذا قدرے  
مختلف است از فارسی ایران و افغانستان . برای ما این عجیب نیست،  
قشنگ است مبصرها و نقادها بر شعر ما تبصره خواهند کرد نه که ما .

این است شاعری به تقاضای درد دل  
سوز غم حیات را اشعار کرده ام "  
سپس میگوید. "مختصر این که فارسی ماست که ماست . رنگین  
و قشنگ و زود رس . این فارسی ما زنده و پاینده و تابنده است و چنین  
خواهد ماند. انشاء الله تعالى " .

گلچینی از اشعار قشنگ و زود رس و پاکستانی نزاد ایشان:

همه چشم عاشق حسین تر زلطفش  
 که شد چشم حیران غزال محمد  
 عصام پرشان غلام است حقا  
 عطا کن پناهی به شال محمد

آن نرگس سیاه کند و عده وصال  
 شد چشم یار باعث فیضان شاعری  
 در بزم ناؤ و نوش خودش ساقی جمال  
 ما را دهد پیاله چون مرجان شاعری  
 آن بوالبوس کجا که زند طعنہ بر عصام  
 سازم زنور شعرها دیوان شاعری  
 (حسین کاظمی)

### \* از گلستان عجم (اردو)

اردو ترجمہ و تنقید "با کاروان حُله" تأليف ڈاکٹر عبدالحسین زرین کوکب  
 ترجمہ: ڈاکٹر مہر نور محمد خان - ڈاکٹر کلثوم فاطمہ سید  
 مرکز تحقیقات فارسی ایوان و پاکستان، اسلام آباد  
 ۱۲ + ۵۲۳ ص، ۱۹۸۵ء، ۱۲۰ روپے۔

فارسی شعر کی تاریخ کے بیس نام ور ترین شعراء: رودکی،  
 فردوسی، فرخی، منوجہری، ناصر خسرو، مسعود سعد، خیام، سنائی،  
 انوری، خاقانی، نظامی، عطار، مولوی، سعدی، امیر خسرو، ابن یعین،  
 حافظ، جامی، صائب اور بہار کے حالات زندگی اور کلام بریے لایگ  
 بحث اور تنقید کی گئی ہے۔ بر شاعر کا کلام اس کے ذاتی حالات اور  
 عصری رجحانات کے مطابق جانچا گیا ہے۔ غیر فارسی ادب سے اس  
 کے مصادیق تلاش کیے گئے بیس اور اسے داستان گونی کے انداز میں  
 بیش کر دیا گیا ہے۔

پاکستانی جامعات میں فارسی امتحانات میں تنقید کے مضمون  
 میں طالب علموں کو خاطر خواہ مواد دستیاب نہ ہونے کے وجہ سے جو  
 مشکل درپیش تھی، اس کا ازالہ ہو گیا ہے اور اس ترجمہ کے ذریعے  
 تنقید کا ایک دلچسپ اسلوب متعارف ہوا ہے۔

## \* پاسداران زبان و ادبیات فارسی در هند . (فارسی)

مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در هند - دهلی نو .

جلد اول: و + ۱۵۰ ص ، ۱۴۰۶ هـ، ۵۰ روپیه هندی .

جلد دوم: ۱۵۸ ص ، ۱۴۰۶ هـ، ۵۰ روپیه هندی .

در هر دو مجلد روپیرفتہ ۱۳۰ + ۱۳۲ استاد و نویسنده فارسی در هند معرفی شده است . استادی که در حال حاضر در دانشگاه ها و دانشکده های هند مشغول تدریس و تحقیق می باشند و یا باز نشسته شده اند . همانگونه که در قدیم هندووان و سیکھان فارسی را یاد می گرفته اند و بآن زبان کتاب می نوشته اند ، امروز نیز می بینیم که عده ای از این قوم علاقه مند به زبان و ادبیات فارسی می باشند که ذکر آنان در این کتاب آمده است . دکتر امرت لعل عشرت مدھوک رئیس بخش فارسی دانشگاه هندو بنارس "تحلیل از عقاید عرفانی فرید الدین عطار" می کند (ج ۱ ص ۱۳) و گلونت سینگ ممتاز مقاله مفصل درباره مولانا جلال الدین رومی می نویسد .

بوسیله این کتاب معلوم می شود که استادان هندی در چه زمینه های ادبیات فارسی و ایرانشناسی کار کرده اند و چندین مورد است که استادان در پاکستان و یا ایران بدون اینکه از زحمات و نتایج تحقیقات استادان هندی آگاه باشند باز در همان زمینه ها اسب قلم تاخته اند . از باب مثال در جلد دوم ص ۱۰۰ می خوانیم که آقای محمد سیف الله معلم فارسی یکی از دیرستان های کلکته روی مخدوم جهانگشت و کتابش خلاصه الالفاظ و جامع العلوم تحقیق کرده بود . اما اخیراً دکتر غلام سرور نیز در پاکستان در ۷۵ سالگی — در سنی که او می باشست نیروهای بدنی خود را راحت و آسایش بخشد — خود را در تصحیح این کتاب نراحت و خسته کرده است . پس از این کار دستش بیشتر لرزه پیدا کرده است و شماره عینکش بالاتر رفته است . منظور اینست که اگر نویسنده گان قلمرو فارسی از کارهای یک دیگر آگاه باشند ، از "دوباره کاری" جلوگیری خواهد شد و یا پژوهش های نسبتاً کامل تر و پیشرفته تر عرضه خواهد شد .

به هر حال تلاش مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در هند در راه

معرفی و ارج نہادن زحمات استاد هند قابل تقدیر است.  
تنها یک پیشنهاد داریم که اگر جلد های بعدی این کتاب تهیه و  
چاپ شد، و یا همین دو جلد تجدید چاپ شد، آدرس دقیق هر استاد به  
حروف فارسی یا لاتینی اضافه شود که برقرار کردن رابطه با این استادان  
آسان باشد.

### \* پرتو تحقیق (اردو)

ڈاکٹر آصفہ زمانی .

باعانت فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی .

ملنے کا پته: نصرت پبلشرز، حیدری مارکیٹ، امین آباد،

لکھنؤ، بھارت .

۲۲۸ ص ، ۱۹۸۵ء ، ۳۰ روپے .

محترمہ ڈاکٹر آصفہ زمانی لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی سے  
وابستہ ہیں اور طالب امیلی کے فارسی دیوان کی تنقید و تصحیح پر  
ڈاکٹریت کی ڈگری حاصل کرچکی ہیں۔  
مصنفہ اپنے پیش گفتار میں لکھتی ہیں: شعر فارسی وہ بحرِ خار  
ہے جس کی شناوری بہت مشکل ہے۔ اس دشواری کے باوجود میں  
ایک عزم مستقل کرے ساتھ اس بحر پر پایاں سے گوہر نایاب ڈھونڈ  
نکالنے کی سعی پیغم میں مشغول ہوں۔ (ص ۷)  
اس سعی پیغم کے نتیجے میں ڈاکٹر زمانی نے فارسی ادب سے  
متعلق اپنے دس اردو مقالات پیش کیے ہیں جن کے عنوانات یہ ہیں:  
غالب اور طالب، سعدی خسر و اور حافظ غزل کے آئینہ میں، مرتضیٰ  
عبدالقدار بیدل کی سیل نگاری، شمس العلما مفتی میر عباس بحیثیت  
فارسی شاعر، طالب امیلی بحیثیت رباعی گو، مثنوی سحر حلال اور ید  
بیضا پر ایک طائرانہ نظر، حسین قلی خان عاشقی اور تذکرہ نشتر عشق،  
حافظ شیرازی بحیثیت قصیدہ سرا، طالب امیلی کے عشقیہ کلام کی چند  
جهلکیاں، میر تقی میر کے منظوم و منتشر فارسی آثار کا ایک تنقیدی  
جاائزہ۔

شمس العلما مفتی میر عباس لکھنؤ (م ۱۳۰۶ھ) فارسی کے پُر  
گو شاعر تھے ان کے بارے میں ڈاکٹر زمانی کا مقالہ نئی معلومات کا  
حامل ہے۔ اسی طرح ”نشتر عشق“ کے ایک دیگر قلمی نسخہ

محزونہ مدرسہ سلطان المدارس لکھنؤ کا بھی مصنفہ نے سواغ لگایا ہے اور اس کی خصوصیات گنوائی ہیں - باقی مقالات پر نظر ڈالیے تو سبھی معروف شعرا کے کلام پر تبصرہ و تنقید کا عنوان لیتے ہوئے ہیں - جس طرح اردو ادب میں اقبالیات اور غالبیات مقالہ نگاروں کے لیے آسان ترین موضوع ہے اسی طرح فارسی ادبیات میں مضمون نویسروں کے لیے حافظہ شناسی اور سعدی شناسی مشکلے ندارد۔ ان حالات میں "گوہر نایاب" کی تلاش سعی لاحاصل ہو گی - کتاب کے تقریظ نگار ہروفیسر ڈاکٹر ولی الحق انصاری رئیس بخش فارسی دانشگاہ لکھنؤ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی علمی و ادبی فضا بر فارسی زبان تقریباً سات سو سال تک چھانی رہی (ص ۵) - جب ہندوستان میں فارسی زبان کا سابقہ اس قدر طولانی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم خسرو اور بیدل سے اگر تحقیق و تدقیق کی جو دنیا ہے وہاں قدم نہیں رکھتے؟ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ سعدی شناسی ایسے پامال موضوع پر بھی مصنفہ کی معلومات کا یہ حال ہے کہ وہ انہیں بغداد میں امام غزالی اور شیخ عبدالقدار جیلانی کی صحبت سے فیض اٹھاتے ہوئے دکھاتی ہیں (ص ۳۸) جب کہ خود مصنفہ نے سعدی کا سال ولادت ۵۸۵ھ متعین کیا ہے (ص ۳۷) تو اس صورت میں ۵۰۵ھ میں وفات پانی والی غزالی اور ۵۶۱ھ میں انتقال کرنے والی شیخ جیلانی سے سعدی بغداد میں کس طرح فیض یا ب ہو سکتا ہے؟ اگر چل کر مصنفہ لکھتی ہیں کہ سعدی نے عمر کے باستھوں زینے پر قدم رکھا تو ۶۵۳ھ میں ہندوستان میں امیر خسرو پیدا ہوئے (ص ۵۲) - اگر سعدی کا سنہ ولادت ۵۸۵ھ قرار پایا ہے تو وہ ۶۲۷ھ میں باستھ سال کے ہوں گے قطع نظر اس سے کہ خسرو کا متفق علیہ سال ولادت ۶۵۱ھ ہے (اقبال صلاح الدین، مقدمہ پر کلیات خسرو، جلد اول ص ۶۱ لاہور) اور ڈاکٹر اصفہ نے یہ توجیہی سے خسرو کا سال ولادت ۶۵۳ھ عیسوی اور سال وفات ۱۳۲۵ھجری لکھ دیا ہے (ص ۵۲ حاشیہ) -

بعض مقامات پر مقالہ نویس کا انداز بیان فصیح و بلیغ نہیں ہے مثلاً لکھتی ہیں: مجھے حال ہی میں لکھنؤ کے سلطان المدارس میں "نشر عشق" کے ایک قلمی نسخے کا پتہ لگا جس کے متعلق اب تک صدائے تحقیق خاموش ہے (ص ۱۰) یا: یہ تذکرہ نام نہاد مغل دور لیکن دراصل برطانوی حکومت کے زمانے کا ترتیب کردہ ہے - (ص ۱۳۸)

آج کل غلط نامہ پر کتاب کا جزو ہوتا ہے مگر زیر بحث کتاب کا

نہیں اگرچہ کتابت کی کئی غلطیاں موجود ہیں مثلاً بیروکار گو بیرور (ص ۸)، بیرویہ کو بیبرویہ (ص ۳۷)، پیکچر لیٹڈ کو پیکچر لیٹڈ (ص ۵۳)، قران السعدین کو قرآن السعدین (ص ۱۰۱)، عوفی کو عرفی (ص ۱۳۷)، قطعہ کو قطع (۱۲۵، ۱۳۱)، منتخب اللطائف کو منتخب الطائف (ص ۱۵۰) اور موقعوں کو موقعوں (ص ۱۵۲) لکھا گیا ہے۔

مصنفہ نے ایک جگہ تحقیق کا معیار یوں مقرر کیا ہے: ڈاکٹر سید علی رضا نقوی نے "انذکرہ نویسی فارسی ۰۰۰" میں اس انذکرہ نشر عشق کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے قلمی نسخے باشکی بور پٹھ، رام بور اور لاہور میں دستیاب ہیں۔ ان کی تحقیق اطمینان بخش نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے کتابخانہ سلطان المدارس لکھنؤ کے نسخہ کی نشاندہی نہیں کی ہے (ص ۱۲۵)۔

گویا کسی نسخہ کی نشاندہی نہ کرنا تحقیق کا غیر اطمینان بخش ہے بلو ہے۔ ہم نہایت ادب سے مصنفہ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ پاکستان و ہند میں فہرست نویسی اور کتاب شناسی پر کام بی کتنا ہوا ہے کہ محققین کو اس خطے میں جا بجا بکھرے ہوئے مخطوطات کا علم ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ جو فہرستیں شائع ہوتی ہیں ان سب کا ایک محقق کی دسترس میں بھی ہونا محال ہے اگر ہم مصنفہ کو یہ اطلاع دیں کہ نشر عشق کا ایک قلمی نسخہ (مکتوبہ دیبی لعل ۱۸ ربیع الثاني ۱۲۲۷ھ) ان کے اپنے وطن ہندوستان کے کتابخانہ حمیدیہ بھوپال میں (۱۱)، اور دوسرا ڈھاکہ یونیورسٹی میں موجود ہے (۲) مگر ان دونوں نسخوں کا انہوں نے اپنے مضمون میں کہیں ذکر نہیں کیا تو کیا ان کی تحقیق غیر اطمینان بخش قرار پائیں گی؟

مصنفہ نے اس اطلاع سے بھی ہمیں محروم رکھا ہے کہ تذکرہ نشر عشق ۱۹۸۱ء میں روس سے شائع ہو چکا ہے۔

۱ - فہرست نسخہ ہای خطی کتابخانہ تحقیق و اشاعت کشمیر و کتابخانہ حمیدیہ بھوپال - شائع کردہ مرکز تحقیقات فارسی - نئی دہلی ۱۹۸۵ء۔

2 - Descriptive Catalogue of the Persian, Urdu & Arabic Manuscripts in the Dacca University Library,  
By A.B.M. Habibullah, 1966  
Vol. I, P.33.

\* جاویدان اقبال

ترجمه کتاب "زنده رود"

ترجمه و تحرییه دکتر شهین دخت کامران مقدم صفیاری

جلد اول چاپ چایخانه رامین، تهران، چاپ اول ۱۳۶۲ ش،

تیراز ۳ هزار، ۲۸۰ صفحه باضافه چند صفحه عکس، بیا ۴۸۰ ریال

جلد دوم چاپ اقبال اکادمی پاکستان، لاہور، ۱۹۸۵ م ۵۰۷، ۴ صفحه باضافه عکسها، ۱۰۰ روپیه یا ۷۰۰ ریال

جلد سوم چاپ ایضاً ۱۹۸۶ م ۴۱۴، ۴ صفحه، ۱۰۰ روپیه یا

هزار ریال

فرزند دانشمند علامه محمد اقبال، دکتر (قاضی) جاوید اقبال از سالهای متادی در فکر تهییه و تکمیل زندگی نامه پدر نامدار خود بوده که سایر احوال و آثار و افکار وی را متنضم باشد. در این ضمن او از منابع و تسهیلاتی برخوردار بوده که برای دیگران تقریباً امکان نداشته و حق این است که او از عبده تحقیق و برسی کاملًا موفق بیرون آمده است. "زنده رود" در جاوید نامه اسم آسمانی اقبال است که درباره معنویت آن مطالبی زیاد نوشته شده است. نکته جالب تر آن ایده تسلسل و حرکت دمادم جوی روان زندگانی است که اقبال بآن کرارًا اشاره می نماید و در این ضمن قطعه "جوی آب" در بیام مشرق شایسته ارجاع است.

دکتر جستس جاوید اقبال اثر تحقیق سه جلدی خویش را "زنده رود" موسوم ساخته است. "جاویدان اقبال" همانند "جاویدان خرد" اسم خوبی است چون تصادفاً اسم "زنده رود" اقبال تنها در جاوید نامه مذکور است.

یکی از شاعران معاصر فارسی در توصیف اقبال گفته است:

کود از "جاوید نامه" نام خود را جاویدان

جاودان مانند آری جاودان امثال او

هر سه جلد "زنده رود" در ظرف نه سال تکمیل یافته و کتاب بخط ریز اردو و قطع وزیری جمعاً ۷۱۱ صفحه دارد. جلد نخست در سال ۱۹۷۹ م انتشار یافت، جلد دوم در سال ۱۹۸۱ م و جلد نیانی سوم ۱۹۸۴ م - برای جلد نخست کتاب در سال ۱۹۸۱ م دانشگاه آزاد علامه اقبال

در اسلام آباد به نویسنده محقق جائزه ای داد و برای کامل (هر سه کتاب) وزارت آموزش و پرورش دولت پاکستان یک جائزه دیگر را به نویسنده اعطا نموده است . فارسی گویا نخستین زبانی است که این کتاب (غیر از سه باب نهائی جلد سوم) در آن ترجمه شده با اضافه هواش و حواشی مفید در صورت جلد هایی مزبور فوق چاپ گردیده است .

"زنده رود" سه جلد دارد:

جلد اول از آغاز زندگانی اقبال (ولادت ۹ نوامبر ۱۸۷۷ م) تاریخ‌سپار گردیدن وی به اروپا است که برای تحصیلات عالی در رشته فلسفه و حقوق مسافرت اشاره شده را در پیش گرفته بود . این جلد شامل مباحث سلسله انساب و دودمان اقبال و دوران کودکی و نوجوانی شاعر مفکر و آموزش وی در سیالکوت و لاہور از زمان ابتدائی تا دوره فوق لیسانس و همچنین عصر شش ساله تدریس و تحقیق وی در لاہور و سیس مسافرت وی به اروپا و اقامت سه ساله وی در انگلستان و آلمان وبالآخر باز گشت وی به لاہور در سال ۱۹۰۸ م وغیره می باشد درباره تاریخ ولادت شاعر و تکامل تدریجی هنر شاعری و تفکر وی هم بحث‌های مقنع دیده می شود . نویسنده بدروستی این قسمت را "عصر تشکیل" موسوم ساخته است .

جلد دوم کتاب مربوط به "عصر وسطی" اقبال است از سال ۱۹۰۸ م تا ۱۹۲۵ م . در این دوران نبوغ شعری اقبال اعجاز آسا ادامه می داشته و غیر از مجموعه اردو "بانگ درا" سه کتاب فارسی وی، "اسرار خودی" ، "رموز بیخودی" و "پیام مشرق" و چند کتاب انگلیسی و بعضی از مقاله های مهم وی متعلق همین سالها می باشند . معبدا این دوران فرسایش آور بوده است . شاعر با مسئله امرار معاش و بحرانی زندگانی خانوادگی مواجه بوده و اثرات بد جنگ جهانی اول را به حس می کرد بویژه با ملاحظه نمودن انعکاس‌سپایی در جهان اسلام . گذشته از اینها اقبال در سالبای مزبور در صحنه های دین و سیاست و تصوف هم برخورد هائی یا مرتجلان داشته است .

جلد سوم کتاب به دور نهائی اقبال ۱۹۳۶ تا ۲۱ اوریل ۱۹۳۸ م) دور می زند - این دور شامل مهم ترین وقایع سیاسی و فکری است . اقبال عملا وارد صحنه سیاسی شده بود . او عضو مجلس مقننه استان بنجاح انتخاب گردید . فکر تشکیل و تکوین پاکستان را تلویحاً عرضه داد . در دو کنفرانس میزگرد لندن شرکت جُست و با بنیانگذار پاکستان

قائد اعظم محمد علی جناح هسکاری صمیمانه ارائه داد. ضمناً او به ایتالیا و فرانسه و اسپین و مصر و فلسطین وغیره مسافرت‌هایی هم انجام داد . ترجمه جلد سوم "زنده رود" به دو بخش منقسم گردیده و سه باب آخر کتاب با فهرست منابع و هواش تحقیقی در صورت جلد چهارم اینک زیر چاپ می‌باشد .

جلد چهارم به وقایع و آثار مربوط به اواسط سال ۱۹۳۳ م به بعد متعلق است و در آن مسافرت اقبال به افغانستان و برخوردهای وی بامسأله قادیانیها و کیفیت بیماری چهار ساله مداوم وی و آثار اردو و فارسی این دور مانند "مسافر" و "بال جبریل" و "ضرب کلیم" و "پس چه باید کرد ای اقوام شرق" و "ارمندان حجاز" مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در صورتی که جلد سوم "جاویدان اقبال" معرف خطبات "احیای فکر دینی در اسلام"، "زبور عجم" باضمام دو مثنوی آن و "جاوید نامه" است .

"زنده رود" بلا شبه از منابع مهم اقبال شناسی است . ترجمه شدن این اثر مهم به فارسی از امور بسیار ستودنی است . از سه جلد کتاب "جاویدان اقبال" که یکی در تهران انتشار یافته و دو در لاهور، نسخه ای اینک برای فروش بدست نمی‌آید . این دلیل چیست ؟ بنظر من این دلیل علاقمندی عمیق ایرانیان به اقبال است و همچنین دلاویزی این اثر آقای دکتر جاوید اقبال، مترجم کتاب باحسن ترجمه و تحشیه خود البته به دلاویزی کتاب افزوده است .

امیدواریم که "جاویدان اقبال" جزو آثار مهم فارسی اقبال شناسی همواره برای فارسی زبانان قابل استفاده باشد .

مجلدات این کتاب از محاسن صوری و معنوی چاپ برخوردارند و عکس‌های مناسب بسیاری از گوشه‌های زندگانی علامه محمد اقبال را بنحو احسن نمایانگر می‌باشند .

البته مؤلف کتاب و اولیای اکادمی اقبال شاید بعداً تجدید فکر کنند که چهار جلد کتاب را یا تفکیک و تجمعیع دو جلد در صورت یک مجلد، جمعاً در دو جلد قطور و مناسب می‌توان در آورد .

(دکتر محمد ریاض)

\* شرح فصوص الحکم محبی الدین بن عربی  
(فارسی)

نگاشته: تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی، بین سالہای ۸۳۵ - ۸۲۸ھ.

باہتمام: نجیب مایل ہروی  
انتشارات مولی، خیابان انقلاب، چهار راه ابو ریحان - تهران .  
دو دو مجلد، ۹۱۹ ص، ۱۴۰۶ھ، ۲۵۰۰ ریال .

ابن عربی کی "فصول الحکم" اپنے دقیق مطالب کی وجہ سے  
بمیشہ عرفاء کی توجہ کا مرکز بنی ربی ہے اور وہ اپنے احباب کے لئے  
اس کتاب کا سهل اور زود فہم عبارت میں ترجمہ اور شرح لکھتے رہے  
ہیں -

زیر نظر شرح بھی حسین بن حسن خوارزمی (مقتول ۸۳۹ھ) نے  
اپنے زمانے کے اہل عرفان کے اس طبقے کے لیے لکھی ہے جو عربی  
زبان سے نابلد ہونے کے باعث "از مشاهدہ دقایق حسن آن نازنین" (یعنی  
فصول) محروم ۰۰۰ بودند" (ص ۱۰) لہذا انہوں نے درخواست کی کہ  
فصلوص الحکم کی فارسی زبان میں شرح لکھی جائے -

خوارزمی کی یہ شرح نہ صرف پہلی بار شائع ہوئی ہے بلکہ  
خوارزمی سے اس کے انتساب کا اظہار بھی اولین بار وثوق کے ساتھ  
کیا گیا ہے۔ دارالکتب قابره کے فہرست نویس نصرالله مبشر طرازی نے  
جب ۱۹۶۸ء میں "فہرست مخطوطات دارالکتب قاهرہ" شائع کی تو  
اس شرح کے ایک نسخے کا ذکر کیا مگر شارح کا نام نامعلوم رہا  
(فہرست مخطوطات ۱:۳۳۷)۔ احمد منزوی نے جب پاکستان میں  
فارسی مخطوطات کا کیٹلاگ "فہرست مشترک نسخہ ہای خطی  
فارسی پاکستان" شائع کیا تو شک کے ساتھ اس شرح کو کمال الدین  
حسین خوارزمی کی تصنیف بتایا (۱۴۰۳ھ) مگر ساتھ بی اسرے 'ارشاد  
الم Ridleyin' کے مصنف کمال الدین حسین خوارزمی (م ۹۵۸ھ) کے ساتھ  
خلط کر دیا (۱۶۳۲:۳)۔ نام کی اسی مشابہت سے مذکورہ فاضل  
فہرست نگار کو 'ارشاد الم Ridleyin' کی تاریخ تصنیف ۵ ذیحجہ ۹۲۵ھ بر  
تعجب ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ۵ ذیحجہ ۸۲۵ھ ہونی  
چاہیے کیونکہ خوارزمی ۸۲۸ھ یا ۸۲۰ھ میں قتل ہو چکا تھا -  
(۱۴۳۷:۳)

شرح فصول الحکم کے مصحح - نجیب مایل ہروی - نے نام کی  
مشابہت سے پیدا ہونے والی عقدہ کو کھولا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ  
۸۰۰ھ سے لے کر ۹۸۰ھ تک خوارزم میں تین ایسے شخص گذرے

ہیں جن کا نام حسین تھا اور وہ تینوں صوفی اور عارف تھے۔  
 اول: حسین خوارزمی ملقب به تاج الدین - مقتول ۸۳۹ھ۔ مثنوی  
 مولوی کی شرح "جواهر الاسرار" اور زیر نظر شرح کے علاوہ تو  
 دیگر کتب کے مصنف ہیں اب تک تذکرہ نویس اور فہرست نگار  
 حضرات اس خوارزمی کا لقب کمال الدین لکھتے آ رہے ہیں۔ (ذبیح اللہ  
 صفا ۳۹۱:۳، سعید نفیسی ۲۲۲:۱) مگر تعجب مایل ہروی نے فراند  
 غیاثی کے حوالے سے حسین خوارزمی مقتول ۸۳۹ھ کے لقب "تاج  
 الدین" کا سراغ لگایا ہے۔ فراند غیاثی نویں صدی ہجری میں لکھی  
 گئی تھی۔

دوم: حسین خوارزمی ملقب به کمال الدین - متوفی ۹۵۸ھ۔ سلسلہ  
 حسینیہ همدانیہ کا بانی اور "ارشاد المریدین" کا مصنف۔

سوم: حسین خوارزمی ملقب به شریف الدین۔ یہ کمال الدین حسین  
 خوارزمی مذکور کا بیٹا تھا اور اپنے والد کے مناقب میں ایک مسیبوط  
 کتاب "جادۃ العاشقین" کا مصنف ہے۔

مصحح نے اس شرح کی حیثیت متعین کو قلعہ ہونے لکھا ہے کہ یہ  
 فصوص الحکم کی کوئی مستقل شرح نہیں ہے بلکہ شرح لکھتے وقت  
 خوارزمی کے پیش نظر شرف الدین داؤد قیصری (۴۵۱ھ) کی "شرح  
 فصوص الحکم" تھی۔ خوارزمی نے "شرح قیصری" کو بنیاد بنا یا ہے  
 ۰۰۰ گویا یہ قیصری کی عربی شرح کا ایک گونہ فارسی ترجمہ ہے  
 (ص بیست و سه و بیست و شش)۔ البتہ شارح نے موقع و محل کی  
 مناسبت سے فارسی کے دلنشیں اشعار کے استعمال سے شرح کو مزید  
 لطیف بنایا ہے۔

کتاب کی طباعت اور کاغذ پتہ عمدہ ہے۔

### \* شرح لوائج جامی (اردو)

پروفیسر سید محمد عبدالرشید فاضل  
 ادارہ تنویرات علم و ادب، ۵۰۵ پیر الہی بخش کالونی،  
 کراچی۔

۱۷۶ ص، ۱۹۸۵ء، اشاعت دوم، ۳۰ روپے۔

مولانا جامی کی برصغیر پاک و ہند میں مقبولیت پر کچھ کہنے کی  
 ضرورت نہیں ہے اگر صرف "لوائج" کو لیا جائے تو یہ رسالہ کم از کم

دس بار بہان سے شائع ہو چکا ہے اور اردو زبان میں اس کے چار مختلف ترجیح ہو چکے ہیں۔ لقمان الدولہ حیدر آبادی کا ترجمہ موسوم ہے تجلیات دل، شمس الدین قادری کا ترجمہ، سید فیض الحسن فیضی کا ترجمہ اور سید فاضل کاظمی نظر ترجمہ یا بقول مترجم شرح۔

شمس الدین کے ترجمے میں لوایح کی فارسی رباعیات کا ترجمہ نہیں کیا گیا تھا مگر بروفیسر فاضل نے ان فارسی رباعیات کو بھی اردو کا لبادہ اور ہادیا ہے اور متن کے اردو ترجمے کو مربوط بنادیا ہے اس اشاعت کی ایک خوبی یہ ہے کہ فارسی متن بھی ساتھ موجود ہے۔ مترجم نے جامی کے حالات پر جو مقدمہ لکھا ہے اس میں بعض باتیں محل نظر ہیں۔ صفحہ ۱۱ اور صفحہ ۳۳ پر حاشیے میں محمد عبدالاحد خاں خلیل کا نام بطور حوالہ ہے۔ بس۔ معلوم نہیں ان صاحب کی کس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ صفحہ ۱۲ پر لکھا ہے: جامی ہرات میں مدفون ہیں اور راقم الحروف نے ۱۹۶۶ء میں ان کے مزار کی زیارت کی تھی۔ اس مشاهد پر حوالہ دیا ہے "اقبال اور فارسی شعراء صفحہ ۱۹۶۲ء کا۔ یہ کتاب تو ڈاکٹر محمد ریاض صاحب کی تصنیف ہے گویا ڈاکٹر ریاض ۱۹۶۶ء میں قبر جامی پر گئے تھے نہ کہ مقدمہ تو ہیں۔

صفحہ ۱۲ پر متواضع کو متواضع اور صفحہ ۳۳ پر روضۃ کو روضۃ کتابت کیا گیا ہے۔ صفحہ ۳۳ پر ہی بابولر انسانیکلوبیڈیا کے حوالے سے جامی کی تصانیف کی تعداد بتائی گئی ہے۔ اس قسم کی تجارتی کتابوں سے جامی کے معاملے میں استناد کرنا مناسب نہیں ہے۔ مقدمہ نویس نے بالآخر جامی کی تصانیف کا شمار (۳۳ = جام) قبول کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہی کتابیں دستیاب ہیں۔ جامی کی کتابوں کی تعداد کو اس کے نام یا نسبت (جام، جامی) کے اعداد سے مطابقت دینا تفہیں طبع کی حد تک تو گوارا ہے مگر اس کا تحقیق سے کوئی واسطہ نہیں ہے مثلاً ان ۳۳ کتابوں میں فتوح الحرمن کا نام بھی درج کیا گیا ہے اسے جامی سے کیا نسبت؟ یہ تو محی لاری کی مثنوی ہے۔ شرح بیتین مثنوی کو کتابت کی غلطی سے شرح تبیین لکھا گیا ہے (عدد ۲۰)، صفحہ ۳۰ پر "خمسة المتعيزين" کو "خمسة المتجرين" اور صفحہ ۳۲ پر زمانہ کو زنامہ کتابت کیا گیا ہے۔ اسی صفحے پر شیخ الارشاق، طوسی، فارابی، ابن سینا اور ابن رشد کی معمولات کو خرافات قرار دیا

گیا ہے اور یہ بہت بڑی جسارت ہے۔  
صفحہ ۱۶۶ تا ۱۶۹ لوائح کے نسخہ نولکشوری کی اغلاط کی  
اصلاح کی گئی ہے مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ جس صفحہ اور سطر کا  
حوالہ دیا گیا ہے وہ نولکشور پریس کے کون سے ایڈیشن کی طرف  
اشارہ کرتا ہے کیونکہ نولکشور نے یہ کتاب کم از کم چار بار چھابی ہے  
کتاب کی کتابت معمولی درج کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس  
میں کتابت کی اغلاط در آئی ہیں۔

\* طہاس نامہ (فارسی)  
از محکم الدولہ اعتقاد جنگ طہاس بیگ خان رومی  
معروف به طہاس قلی (۱۷۳۸ - ۱۸۰۳ء)

باہتمام محمد اسلم  
بنجاحب یونیورسٹی، لاہور۔  
۳۳۳ + XI ص۔ سال اشاعت اور قیمت درج نہیں ہے۔ مہتمم کے  
مقدمہ کے آخر میں منی ۱۹۸۶ء کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔

مصنف ترکی میں پیدا ہوا تھا اور وہاں سے سفر کر کے بر صغیر آگیا  
تھا اور بہار مغل دربار سے وابستہ ہو گیا تھا۔ یہ کتاب مصنف کی  
سرگذشت ہے جس کے حوالے سے بر صغیر کی سیاسی اور اجتماعی  
صورت حال کے کچھ پہلو بھی قلمبند ہو گئے ہیں۔

\* لمحات من نفحات القدس (فارسی)  
نگاشته شیخ محمد عالم صدیقی علوی  
پیشگفتار و فہارس محمد نذیر رانجھا  
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد۔ مؤسسه  
انتشارات اسلامی لاہور۔  
۳۳ + ۶۲۱ ص، ۱۹۸۶ء، ۱۰۰ روپیہ۔

زیر نظر کتاب سمرقند، بخارا اور ترکستان میں سلسلہ زکیہ جمیریہ  
کے اکابر اور وابستگان کے حالات و مناقب پر مشتمل ہے جس کے بانی  
خواجہ احمد یسوی (م ۵۶۲ھ) ہیں۔ بعد میں سلسلہ نقشبندیہ بھی اسی  
سلسلہ سے نکلا۔

چھٹی صدی ہجوری سے لے کر گیارہویں صدی ہجوری کے وسط تک ایشیائی وسطی کی معاشرتی اور روحانی طرز زندگی کی اس کتاب میں بھرپور جھلک موجود ہے۔ صوفیہ اور سلاطین کے باہمی تعلقات کے بارے میں بھی اس کتاب میں واضح شہادتیں موجود ہیں۔ لکھا ہے امیر تیمور گورگان کو حضرت ولایت بناء امیر کلال قدس سرہ سے بیحد عقیدت تھی جب ان کی دعا سے تیمور نے مالک خراسان فتح کر لیا تو امیر کلال کو بیعام بھیجا کہ مملکت کی بعض مصلحتوں کے پیش نظر میں خود آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا آپ کو بلانا بھی یہ ادبی ہے لہذا اگر آپ اپنے کسی صاحبزادے کو دربار میں بھیج دیں تو عین نوازش ہو گی۔ امیر کلال نے اپنے بڑے لٹکے امیر حمزہ کو بھیج دیا۔ تیمور نے خود استقبال کیا اور خراسان کے تمام مالک امیر حمزہ کی خدمت میں بطور نیاز پیش کیے۔ امیر حمزہ نے قبول نہ کیا۔ تیمور نے ولایت بخارا بھی نذر کی، امیر نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ تیمور نے امیر حمزہ سے کہا آپ کا وطن مالوف سوخاری ہے وہ بھی نذر کرتا ہوں مگر صاحبزادے نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد تیمور کی ملکہ نے بڑے انتہام کے ساتھ ایک سوتی لباس تیار کروایا اور امیر حمزہ کو پیش کیا اسے بھی قبول نہ کیا اور کہا: بات لباس کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آج ہم نے یہ لباس لے لیا تو پھرے بعد درویش ہر نذر و نیاز کو قبول کر لیا کریں گے۔ (ص ۳۲۱-۳۲۲)۔

حضرت عزیزان قاسم کا واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ ابتدائی حال میں جب وہ خود درویشوں کی خدمت میں تھے تو اپنی کھیتی بازاری سے حکومت کو خراج ادا کرتے۔ جب مرتبہ کمال و تکمیل اور ارشاد خلائق بر فائز ہونے تو پادشاہان وقت نے خراج لینا چھوڑ دیا مگر وہ خراج کو الگ کر کر کنوں میں ڈال لیتے۔ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل سے خرابی بیدا ہوئی تو آپ نے ائمہ دین سے رجوع کیا اور استفسار کیا کہ یہ خراج کیسے ادا کیا جائے۔ علماء نے راتے دی کہ اگر بادشاہ خراج نہیں لیتے تو آپ خود متولی ہیں جس طرح چاہیں استعمال میں لاسکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے وہ خراج مدارس بر خرج کرنا شروع کر دیا۔ (ص ۳۲۳-۳۲۵)۔

یہ دونوں واقعات صوفیہ کی خودداری کی عمدہ مثال ہیں۔

زیر نظر کتاب میں اس دور کے مقامی علماء اور شعراء کا بھی برابر ذکر ملتا ہے مثلاً بخارا کے ایک شاعر مولانا زینتی کا حال (ص ۳۲۰)۔

یہ متن اس سے پہلے ۱۳۲۷ھ میں، روس سے شائع ہو چکا ہے زیر

نظر اشاعت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد میں موجود اس کتاب کے خطی نسخہ کا عکس ہے۔ یہ خطی نسخہ نہ تو خط کے لحاظ سے ممتاز ہے اور نہ بی قدامت کے اعتبار سے۔ (کتاب ۱۰۳۳ھ میں تالیف ہوئی اور زیر نظر نسخہ ۱۲۵۱ھ میں کتابت کیا گیا) بلکہ اس میں کتابت کی غلطیاں بھی موجود ہیں۔ ایسی صورت میں اس کتاب کی مکرر اشاعت کی افادیت محدود ہو جاتی ہے۔

گذشتہ کچھ عرصے سے مرکز تحقیقات فارسی بالاستقلال اور اشتراک کے ساتھ متون کو افسٹ طریقے سے شائع کر رہا ہے۔ مقبول عام مطبوعہ کتابوں کی دوبارہ عکسی اشاعت تو تکنیکی اعتبار سے محل نظر نہیں ہے مگر خطی نسخوں کی عکسی اشاعت کی موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تجاویز یہ ہیں کہ:

- ۱ - ایسی کتابیں شائع کی جائیں جو بہلے شائع نہ ہو چکی ہوں۔
- ۲ - ایسے نسخوں کا انتخاب کیا جائے جو منحصر بفرد ہوں یا شائع شدہ نسخوں کے مقابلہ میں کسی خاص امتیاز یا اہمیت کے حامل ہوں۔
- ۳ - خط اور املا کی نوعیت بھی قابل توجہ ہے ایک بد خط اور مغلوط متن شائع کرنے کا فائدہ؟

۴ - ایسے تمام عکسی متون کے ساتھ تنقیدی اور تحلیلی مقدمہ کا ملحق ہونا از بس ضروری ہے کیونکہ خطی تحریر کا مطالعہ کر کے معلومات حاصل کرنا ہر قاری کے حوصلے کی بات نہیں ہے یہ تلافی ایک صاف ستھرا بسیط مقدمہ ہی کر سکتا ہے۔

رانجھا صاحب نے کتاب کے آخر میں مختلف فہارس کا اضافہ کر کے اس عکسی اشاعت سے استفادہ سہل کر دیا ہے۔ ان کے مقدمہ میں صرف مصنف اور کتاب کے بدیہیہ بہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کا دوسرے تذکروں میں کیا مقام ہے؟ اور اس میں کس قدر اجتماعی، ادبی اور تاریخی نکات پوشیدہ ہیں؟ اس بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ کتاب کی افادیت بتائی بغیر اس زمانے میں قاری کو کتاب کے مطالعہ کی طرف راغب کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وقت کی تنگی کا یہ عالم ہے کہ لوگ صرف دیباچہ پڑھتے ہیں اور اس سے متن کے حسن و قبح کا اندازہ لگا کر آگئے پڑھتے ہیں۔

### \* مجمع البحرين (فارسی)

از شمس الدین ابراهیم ابرقوہی۔ بین سالہای ۷۱۱-۷۱۴ھ

به اهتمام نجیب مایل هروی  
انتشارات مولی - تهران  
چهل و هفت + ۵۷۰ ص، ۱۴۰۶، ۲۵۵۰ ریال -

مصحح نے زیر نظر کتاب کی اہمیت پر روشنی ڈالنے ہونے لکھا ہے  
کہ جب مصنف (ابرقوہی) یہ کتاب لکھنے بیٹھا تو ایران میں تصوف کے  
تین ممتاز مکتب موجود تھے۔ پہلا مکتب خراسان کے دیدہ ور بیرون  
(قشیری، سلمی، ابی نصر سراج، محمد غزالی وغیرہ) کا تھا۔ دوسرا  
مکتب پایزید بسطامی، ابی سعید ابی الحیر اور قدرے تبدیلی کے ساتھ  
احمد غزالی، عین القضاۃ اور سیف الدین باحرزی کا تھا اور تیسرا  
مکتب ابن عربی اور اس کے بیروکاروں کا تھا۔ یہ تینوں مکاتب کئی  
جهات سے مختلف ہیں اور ہر مکتب کے نظریات قابل تحقیق ہیں شائد  
ان تینوں مکاتب کے بعض افکار اور دقایق کو یکجا کیا جاسکتا ہے  
اور ان سے ایک مجموعہ بنایا جاسکتا ہے۔ یہی دشوار کام ابرقوہی نے  
مجمع البحرين میں انجام دیا ہے۔ (مقدمہ، صفحہ بیست و شش)۔

### \*مقالات اختر (اردو)

ڈاکٹر محمد اختر چیمہ

قرطاس، پوسٹ بکس ۲۵، فیصل آباد -  
۲۲۳ ص، ۱۹۸۵ء، ۵۰ روپے -

دانش کے قارئین ڈاکٹر چیمہ صاحب کے نام سے متعارف ہیں۔ ان  
کا خواجہ اجمیر پر مقالہ دانش کے پہلے ہی شمارے میں چھپ چکا ہے  
۔ زیر نظر مجموعہ ڈاکٹر صاحب کے دیگر بارہ مقالات پر مشتمل ہے جن  
میں سے آٹھ مقالات پہلے چھپ چکے ہیں یا علمی مجالس میں پڑھے  
جاچکے ہیں۔ مقالات کی ترتیب اور تفصیل اس طرح ہے:

نعتیہ

- ۱۔ شیخ عراقی بحیثیت نعت گو
  - ۲۔ جان جہان کے فارسی کلام کا جائزہ
  - ۳۔ کلام اقبال میں عشقِ نبی کی جھلکیاں
- نقشبندیہ
- ۳۔ خواجہ نقشبند

- ۵ - احوال و آثار و مقامات خواجہ محمد پارسا نقشبندی
- ۶ - مقام مجدد الف ثانی
- ۷ - عرفانیات
- ۸ - لطائف اویسیہ
- ۹ - شیخ الاسلام زکریا اور فخر الدین عراقی
- ۱۰ - مقام یوعلی قلندر
- ۱۱ - اقبال اور عرفاء ایرانی
- ۱۲ - اقبال کا فلسفہ عشق

جیسا کہ عنوانات سے ظاہر ہے بیشتر موضوعات تکرار مکرات کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک دو مضمون ہی نئی معلومات کے حامل ہیں مثلاً عراقي شناسی، جو مقالہ نگار کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے وقت تحقیق کا خاص موضوع رہا ہے، مگر اس مجموعے کا سب سے عمدہ مضمون خواجہ محمد پارسا نقشبندی کی تصانیف کے بارے میں ہے جس پر انہوں نے بہت محنت کی ہے اور متعدد مأخذ اور مخطوطات کو کھنگالا ہے اور خواجہ محمد پارسا کی بعض کتابوں کا براہ راست مطالعہ کر کے فہرست نگاروں کی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے۔

ہم نے اس مجموعہ مقالات میں شامل فارسی ادب سے متعلق مضامین کا بغور مطالعہ کیا ہے اور انہی کے بارے میں ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر فارسی کے آدمی بیں لہذا ان کے طرز تحریر پر بھی اسی زبان کا غلبہ ہے اور وہ اپنی اردو تحریر میں فارسی الفاظ اور ترکیبات کا استعمال اس انداز میں کرتے ہیں کہ قاری سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کونسا اسلوب ہے؟ حافظ محمد افضل فقیر قادری صاحب نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اردو نثر کا جدید اسلوب ڈاکٹر صاحب سے التفات مزید کا طلبگار ہے کہ نئی نسل کے اذہان اس سے مانوس تر ہیں (ص ۱۸، ۱۷)۔ بعض فارسی الفاظ و مرکبات کا نامانوس اور یعنی محل استعمال ملاحظہ ہو:

- ۱ - کتاب کوتاه ملعات جسے عراقی نے ... تحریر کیا (ص ۲۸)۔
  - ۲ - صوفی محمد افضل بلا ریب دارائی شهرت عالمگیر ہیں (ص ۳۸)
  - ۳ - اپنے آپائی شہر سریند میں حوزہ علمی قائم کیا (ص ۸۷)۔
- قویہ میں حوزہ ہائے درس قائم کر کے ... (ص ۱۱۵) - حوزہ علمی

خاص ایرانی ماحول کی اصطلاح ہے اور برصغیر میں بالکل نامائوس

ہے۔

۲۔ وہ خود تحت تأثیر قرار پائے (ص ۱۰۳)۔

۵۔ بعد ازان اسمِ کاملِ کتاب ... ضبط و ثبت کیا ہے (ص ۱۱۰)۔

۶۔ پرسنده سوالاتِ گلشن راز ... کو بھی شیخ زکریا کامر بد  
مستقیم لکھتے ہیں (ص ۱۱۷)۔

۷۔ شیخ عراقی بنا بگفتار خویش سترہ سال تک ... ملتان میں  
مقیم رہے (ص ۱۲۱)۔

۸۔ آپ کے تین رسالے اور کتابیں عشق ہی کے مضمون و مبحث  
سرے مشحون و اکنہ ہیں (ص ۱۳۷)۔

بعض جملات کی اردو زبان بھی توجہ طلب ہے مثلاً:

۱۔ فارسی، مشائخ کرام و بزرگان عظام کے لیے ۰۰۰ بیگانی نہیں  
(ص ۳۳)۔

بیگانی کی جگہ بیگانہ ہونا چاہیئے۔

۲۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رسولی و اسلامی و ملنی  
خدمات و مقامات و کمالات کا ۰۰۰ تذکرہ فرمایا ہے (ص ۳۷)۔

رسولی خدمات سے کیا مراد ہے؟

مقالہ نویس نے رواج کو یعقوب چرخی کی تصنیف بتایا ہے (ص ۵۵)۔ حالانکہ یہ یعقوب صرف کشمیری کا رسالہ ہے۔

اسی طرح جواہر الاسرار شرح مشنوی مولوی کے مصنف حسین بن  
حسن کی نسبت مکانی سبزواری لکھی ہے (ص ۱۱۵، ۲۱۵)۔ حالانکہ  
وہ خوارزمی ہیں۔

مقالہ نویس نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں عراقی کے پانچ مکاتیب  
کا ایک خطی نسخہ ملا ہے جن میں عراقی کے بارے میں ایسی قیمتی  
معلومات درج ہیں جن کا کسی اور کتاب یا تذکرے میں نام و نشان  
تک نہیں ملتا (ص ۱۱۹)۔ عراقی پر مقالہ نویس نے دو مقالات پیش  
کئے ہیں۔ ہمیں حیرت ہے کہ ان دونوں میں صرف ایک مقام پر ہی ان  
مکاتیب کی "ذی قیمت اطلاعات" سے کیوں استفادہ کیا گیا ہے؟  
(دیکھئی صفحہ ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۱ حاشیہ ۱۶)۔ حالانکہ اس نو دریافت مأخذ  
کے مندرجات کا تو زیادہ سے زیادہ استعمال ہونا چاہیئے تھا۔

ایک جگہ مقالہ نویس لکھتے ہیں: بوعلی قلندر کی جملہ منظوم و  
منتشر تصنیفات میں سے راقم الحروف کو صرف مشنوی بوعلی قلندر بی

دستیاب ہوسکی ہے (ص ۱۳۵) مگر اگر چل کر مقالہ نگار نے شیخ بوعلی کی تمام تصنیفات پر تبصرہ کر ڈالا ہے اور لکھتے ہیں: جمیع آثار و رسائل نظم و نثر میں بوعلی قلندر کا موضوع سخن فقر و عشق، تصوف و معرفت اور اخلاق و اصلاح احوال ہے۔ حقائق و معارف کا تذکرہ ہے، انداز بیان عالمانہ و عارفانہ ہے، اسلوب نگارش سادہ اور دلنشیں ہے۔ عبارات عام طور پر آیات قرآنی، احادیث نبوی، اقوال صوفیہ اور اشعار اساتذہ سے مزین ہیں تمام آثار و اشعار میں ۰۰۰ (ص ۱۳۶-۱۳۷)۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تبصرہ نگار کو کسی مصنف کی کتابیں دستیاب نہ ہوں اور وہ ان کے موضوع، انداز بیان، اسلوب نگارش اور مأخذ پر (کسی دوسرے حوالے کر بغیر) تبصرہ بھی کر ڈالے؟ کتاب میں ایک دو مقامات پر الفاظ قلم انداز ہو گئے ہیں با جملات سے ربط پس مثلاً:

- ۱ - اپنے قول و فعل سے ۰۰۰ کر دکھایا (ص ۳۱)۔ بہار لفظ "ثابت" چھوٹ گیا ہے۔
- ۲ - آدم بین الماء والطین ۰۰۰ (ص ۷۳) کے بعد "ہویدا است" قلم انداز ہو گیا ہے۔
- ۳ - واضح طور پر عراقی کی طرح ۰۰۰ نعت بیان کی ہے (ص ۷۳)۔ جملے کے سیاق و سباق کر پیش نظر "واضح طور پر" زائد ہے اور بہار "بہر" ہونا چاہیے تھا۔

مقالات میں چند اشخاص کے نام بھی صحیح صورت میں درج نہیں ہوتے حالانکہ ان میں سے جو افراد معاصر ہیں، ڈاکٹر صاحب انہیں ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر شمیم محمود زیدی کو شمیم ناصر زیدی (ص ۲۰۲)، ڈاکٹر محمد اکرم "اکرام" کو ڈاکٹر محمد اکرم اکرام شاہ (ص ۱۲) لکھا ہے اور صفحات ۱۱ و ۱۸۱ پر اس راقم السطور کے نام کے ساتھ از خود "محمد" کا اضافہ کر دیا ہے۔

متقدمین میں سے احمد اتایسوی کو احمد عطایسوی لکھا ہے (ص ۳۹، ۳۸) یا ر محمد بدخشی کو یار محمد بدخشی تحریر کیا ہے (ص ۱۹۵) آخر میں ڈاکٹر صاحب مجھے سے ایک دوستانہ گلہ بھی سن لیں کہ آپ نے اپنے مجموعہ مقالات میں خواجہ محمد پارسا پر میرا مترجمہ مضمون تو شامل کیا ہے مگر اس امر کا مضمون کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ یہ شک مقدمے (ص ۱۱) اور فہرست مأخذ (ص ۱۲۰) میں آپ نے اس ترجیح کا ذکر کیا ہے مگر کہیں یہ صراحة نہیں فرمائی کہ آپ نے وہی ترجمہ من و عن اس مجموعے میں بھی شامل کر لیا ہے۔

## \*A BIBLIOGRAPHY OF PERSIAN MINIATURE PAINTING

By Nasrin Rohani

The Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology  
vi + 158 pp. 1982.


این کتاب حاوی فهرست ۲۰۴۰ مقاله و کتاب و تبصره راجع به نقاشی مینیاتوری ایرانی می باشد که تا سال ۱۹۸۱ م بزبانهای عربی و فارسی و ترکی و زبانهای اروپائی چاپ شده است .

## \*THE ILKHANID SHRINE COMPLEX AT NATANZ, IRAN

By Sheila S. Blair

Center for Middle Eastern Studies, Harvard University  
1737 Cambridge Street, Cambridge, Massachusetts 02138.  
178 pp. 1986.

این کتاب درباره ساختهای ساختمانی است که در خانقاہ شیخ نورالدین عبدالحمد سپهوردی در نطنز (ایران) واقع است . این خانقاہ بروزگار ایلخانی در قرن ۱۴/۱۵ م ساخته شده و بهترین نمونه هنر معماری اسلامی در قرون وسطی می باشد . در آخر کتاب ۷۵ صفحه اختصاص به نقشه ها و عکسها دارد .



## مقدارہ قومی زبان، اسلام آباد کی نئی مطبوعات

کسی وقفرے کے بغیر کتب کی تیاری اور ان کی دلکش اور معیاری انداز میں اشاعت مقدارہ کا طرہ امتیاز بنتا جا رہا ہے اور اس میں بھی تخصیص "کتابیات" کی تدوین و اشاعت کو حاصل ہے جس کی طرف دیگر پاکستانی اشاعتی ادارے بہت کم توجہ دیتے ہیں ۔

مقدارہ چو کتب شائع کرتا ہے زبان تو ان کی اردو ہوتی ہے اور مقصد بھی اردو زبان کی تقویت ہے، لیکن ماهیت کے اعتبار سے یہ کتابیں کسی نہ کسی طور فارسی سے بھی مربوط ہوتی ہیں۔ کیونکہ

اردو زبان کو دریش تحقیقی اور علمی مسائل کے حل و فصل میں فارسی زبان کے سماترے پر نگاہ بازگشت ڈالے بغیر اور بعض معاملات میں اسرے بیش رو بنائے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔  
حال بی میں مقندرہ کی طرف سے موصول ہونے والی چند مطبوعات (البته شائع ہونے والی کتابوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے) کا اجمالی تعارف بیش خدمت ہے۔

#### \* اردو میں اصول تحقیق (انتخاب مقالات) جلد اول مرتبہ: ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش

۲۰۲ ص، ۱۹۸۶ء، ۷۵ روپیہ (مجلد) ۶۰ روپیہ (غیر مجلد)۔  
تحقیق، تسوید، تدوین اور تصحیح وغیرہ کے مسائل پر مختلف مضمون نگاروں کے سترہ (۱۷) مضامین کا مجموعہ ہے۔

#### \* تحقیق اور اصول وضع اصطلاحات پر منتخب مقالات مرتبہ: اعجاز رابی

۱۸۳ ص، ۱۹۸۶ء، ۳۵ روپیہ (مجلد) ۳۵ روپیہ (غیر مجلد)۔  
اس مجموعے میں اصول وضع اصطلاحات پر سات مقالے اور اصول تحقیق پر پانچ مقالے شامل ہیں۔ یہ مقالات مختلف محققین نے مقندرہ کے زیر انتہام دو علیحدہ سیمیناروں میں بیش کئے ہے۔

#### \* جامع الامثال (اردو ضرب الامثال کا ایک جامع معجم) مرتبہ: وارث سریندی - نظرثانی: شان الحق حقی

۳۲۸ ص، ۱۹۸۶ء، ۱۵۰ روپیہ، بوڑی تقاطع

حقی صاحب اپنے دیباچے میں لکھتے ہیں: کہاوتیں زبان سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور عمرانی مطالعے سے بھی۔ بہت سی عربی، فارسی امثال بھی بھی فائدہ رکھتی ہیں کہ نہ صرف تقابلی مطالعے کے لئے مفید ہیں بلکہ اکثر تو خود اردو دانوں کی زبانوں پر بھی چڑھی ہوئی ہیں۔ بول چال میں آتی ہیں اور بعض عربی، فارسی امثال اہل علم کے تصرف میں ہیں ۰۰۰ بھارے علم اور مصنفین نے عربی، فارسی الفاظ کو دل کھول کر اور اپنا مال سمجھہ کر برتاہے۔ دراصل وہ ان کے لیے اجنبی تھا ہی نہیں (صفحہ زا) بھی وجہ ہے کہ زیر نظر کتاب میں فارسی زبان کی یہ شمار ایسی ضرب الامثال موجود ہے جو برصغیر میں زبان زد عوام ہو کر اردو زبان کا حصہ بن چکی ہیں۔ کتاب کے ہمیلے بی صفحے پر الف مددودہ کے باب میں بندہ ضرب الامثال درج ہوئی ہیں۔ ان میں سے سات مثلیں خالص فارسی زبان میں ہیں اور ایک دوسری (آب آب کرتے ہو گئے سربانے دھرا رہا ہے) کا تعلق بھی بالواسطہ طور

بر فارسی سے ہے۔ باب الہاء میں اگر آپ صفحہ ۳۰۹ اور ۳۱۰ کھولیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فارسی ضرب الامثال کی کوئی اردو فرنگ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں لفظ 'بر' کے تحت کل ستر مثیلیں لکھی گئی ہیں ان میں سے صرف اور صرف پانچ مثیلیں خالص "اردو" کی ہیں باقی بینستہ فارسی کی ہیں۔

وارث سریندی صاحب کی یہ سعی، سعی مشکور ہے۔

### \* خزینہ الامثال

شah حسین حقیقت - بسال ۱۲۱۵ھ

(۲) + ۲۵۶ ص ، ۱۹۸۶ء، ۹۰ روپی، بوڑی تقطیع -

عکسی اشاعت بر مبنای طبع نولکشور لکھنؤ ۱۸۷۲ء  
خزینہ الامثال عربی، فارسی اور هندی (اردو) ضرب الامثال کا مجموعہ ہے اور اسے حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ کتاب پہلے ۱۸۵۳ء میں مطبع مصطفانی لکھنؤ سے شائع ہوئی، پھر ۱۸۷۲ء میں فارسی کے خدمت گذار منشی نولکشور نے اسے ضمیم کے ساتھ چھاپا اور اب ۱۹۸۶ء میں یہ تیسرا دفعہ شائع ہوئی ہے۔

طباعت کے طور طریقوں نے موجودہ زمانے میں جو ترقی کی ہے اس میں ایک سیپولٹ عکسی طباعت کی سامنے آئی ہے۔ پچھلی صدی کی کوئی مطبوعہ کتاب ہو یا ہزار سال پرانا مخطوطہ، اس کا براہ راست عکس لیجیے، کتابت کے جہنجھٹ سے بچیے اور کتاب چھاپ دیجیے  
اس سیپولٹ سے تجارت کرنے والے اشاعتی اداروں نے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ مگر اب علمی ادارے بھی اسے اپنا رہے ہیں۔ گذشتہ صفحات میں "لمحات من نفحات القدس" پر تبصرہ کرتے ہوئے میں لکھ آیا ہوں کہ عکسی طباعت کی بعض اوقات کیا خرابیاں ہیں۔ "خزینہ الامثال" کے لیے مقدرہ نے کہا ہے کہ: طلبہ کے لئے بالخصوص ۰۰۰ یہ کتاب باعث استفادہ ہو گی۔ میرے خیال میں ایک سو چودہ سالہ پرانا اردو رسم الخط "طلبہ" کے لیے ناخوانا اور ناقابل استفادہ ہے۔  
مثلاً: ساری ہاندیمیں ایک بھی چانوں ٹولنی ہیں (ص ۱۱۲)۔ گائی کو اپنے سینگہ بھاری نہیں ہیں (ص ۱۶۲)۔ پیاسا کنوئی پاس جاتا ہی کتوں پیاسی پاس نہیں آتا (ص ۵۳) کو آج کا طالبعلم کسی طور بھی پہلو کوشش میں نہ پڑھ سکتا ہے نہ اس سے استفادہ کرسکتا ہے۔ اس پر کتاب کی بدخطی مستزاد۔

عکسی طباعت کی ایک خرابی یہ ہے کہ کتابت اور طباعت کی سابقہ غلطیاں بحال رہتی ہیں (جب تک چدید اشاعت میں غلط نامہ نہ

لگا دیا جائے)۔ مثلاً زیر نظر اشاعت میں یہ غلطیاں: کتابے ہوبی کا  
نہ وہ گھر کا نہ گھاٹ کا (ص ۱۷۵)، کستاخی بہ از نافرمانی (ص  
۱۶۱، ہای چوبین سخت بی نمکین بود) (ص ۵۲)۔

اگر اشاعت کا مقصد حفظ تحریر ہے تو عکسی طباعت مناسب ہے  
لیکن اگر مقصد "استفادہ عام" ہے تو متن کی جوں کی توں مکرر  
طباعت کرے بجائے اس کی مروج زمانہ تصحیح و تحقیق کر اسلوب  
کے مطابق طباعت و اشاعت کی جانی چاہیے۔

\* کتابیات اردو املاء اور دوسرے مسائل

مؤلفہ: ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہانپوری - نظر ثانی: سید جمیل احمد

رضوی

۱۶۹ ص، ۱۹۸۶ء، ۳۸، ۳۶ روپے (مجلد)، ۳۶ روپے (غیر مجلد)۔  
املاء کے متعلقات (رسم الخط، صوتیات، علم پنجا، مختصر نویسی،  
ثانی پ کاری) پر لکھی گئی مستقل کتابوں اور متفرق مقالوں کی  
کتابیات ہے۔ مجموعی طور پر اس میں ۸۵۱ اندرجات ہیں۔ اردو اور  
علاقائی زبانوں کے باہمی ربط پر فہرست مقالات میں فارسی کو بھی  
شامل کیا گیا ہے۔

مرتب نے اصول و فن خوشنویسی پر مندرجہ ذیل کتب کا اندرج  
نہیں کیا ہے۔ ارزشناگ چین از دیبی پرشاد، نولکشور لکھنؤ ۱۸۹۹ء،  
تدریس خطاطی از محمد اعظم منور رقم، جواہر القلم از صوفی خورشید  
عالم گوہر قلم، مرقع خوشخطی از مولوی محمد عنایت اللہ وارثی، مرقع  
ذرین از تاج الدین ذرین قلم، مفاتیح الرزق از مولوی محمد حسین  
مبارک رقم عادل گزہی، مولوی محمد عبداللہ کوٹ وارثی کی قطعات  
العربیہ اور دیگر مطبوعہ سر مشقین۔

مرتب نے جو مخفقات استعمال کرنے بیس ان کی کہیں وضاحت نہیں  
کی مثلاً (خ) سے کیا مراد ہے؟

کتب اور مقالات دونوں کی فہرست مصنفین کے نام کے حروف  
تہجی کی رعایت سے مرتب کی گئی ہے مگر کئی جگہوں پر یہ ترتیبی  
پائی جاتی ہے مثلاً صفحہ ۶۲ پر میم کی ردیف میں صاد (صنوبر سنگھ)  
کا استعمال ہوا ہے۔

کتاب کے آخر میں اگر اشاریہ بھی ہوتا تو اس سے استفادہ مزید  
سimpl ہو جاتا۔

\* کتابیات تراجم - جلد اول - علمی کتب

مرتبہ: ڈاکٹر مرزا حامد بیگ۔ نگران: ڈاکٹر سید عبد اللہ

۳۲۵ ص ، ۱۹۸۶ء ، ۹۰ روپیہ (مجلد) ، ۷۵ روپیہ (غیر مجلد) -  
اس میں اخلاقیات، انجینئرنگ، تاریخ، تعلیم و تدریس، جغرافیہ،  
جنرل سائنس، جنسیات، حیاتیات، ریاضیات، زراعت، سیاست،  
صنعت، طب، طبیعتیات، عمرانیات، فلسفہ، قانون، عملی کیمیا، مذہبیات  
و روحانیات، معاشیات، موسمیات، نفسیات، ہیئت پر انگریزی سے اردو  
میں ترجمہ ہونے والی ۱۷۸۳ کتب کے تراجم کے اندرجہ ہوئے ہیں -

آخر میں صرف مصنفین اور مترجمین کے ناموں کا اشارہ ہے  
کتابوں کے ناموں کے اشارہ کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے -

#### \* منتخب مقالات: اردو املاء و رموز اوقاف

مرتبہ: ڈاکٹر گوہر نوشادی

۳۲۲ ص ، ۱۹۸۶ء ، ۷۵ روپیہ (مجلد) ، ۶۰ روپیہ (غیر مجلد)  
مختلف ماہرین لسانیات کے اصول املاء پر ۸ مقالات، قواعد اعراب  
و رموز اوقاف اور علامات قرأت پر ۵ مقالے اور سفارشات و معمولات  
کے تحت ۹ مضمومین چھاہے گئے ہیں -

مقتدرہ کی تمام کتب درج ذیل ہتھی سے حاصل کی جاسکتی ہیں:  
مقتدرہ قومی زبان - ۱۶۔ ڈی (غربی)، شہائیہ اعوان پلازہ، بیلو  
ایریا، اسلام آباد

## ۳۳۳۳۳

### مجلات

#### \* اقبالیات، شمارہ فارسی

محلہ اقبال اکادمی پاکستان، دفتر مرکزی، ۱۳۹ - ڈی، نیو  
مسلم تاؤن، لاہور.

۱۹۸۶ م / ۱۳۶۴ ش، بہیاں تک شمارہ ۲۰ روپیہ یا ۱۵۰ روپیہ

محلہ سه ماہی اقبال ریویو، متعلقہ اکادمی اقبال از سال ۱۹۶۰  
ہشت سرہم انتشار می یافتہ و مقالات بس ارزشیہ در آن چاپ می شدہ  
است . یک شمارہ آن بہ اردو چاپ می شدہ است و دیگری بہ انگلیسی  
باین نمط در سالی دو شمارہ مجلہ بہ اردو منتشر گردیدہ است و دو  
دیگر بہ انگلیسی . چاپ مجلہ بہمان منوال ادامہ دارد، البته از سہ ماہ

نهایی سال ۱۹۸۵ م مجله اردو موسوم به "اقبالیات" شد در صورتی که شماره‌های انگلیسی اسم قبلی خود را حفظ نموده اند. شماره فارسی مورد نقد و بررسی را هم "اقبالیات" موسوم ساخته اند و این اصطلاح مانند ریاضیات و سیاست و لبنتیات و دخانیات وغیره است که شاید برای فارسی زبانان غریب ننماید.

در سال ۱۹۷۰ م شورای فرهنگی مجله تصمیم گرفته بود که در هر شماره مجله یک یا دو مقاله فارسی هم گنجانده شود. چنانچه در شماره ژوئیه آن سال ترجمه فارسی سه دیباچه اردو نوشته خود اقبال (ترجمه این نگارنده) چاپ شده بود. دیباچه‌ها مربوط به سه کتاب اوییه‌اقبال، "اسوار خودی" و "رموز بی‌خدوی" و "پیام مشرق" می‌باشد. بهر نحو، آن تصمیم بعداً قطع شد. تصمیم کنونی اولیای اکادمی اقبال را، حاوی بر اینکه یک شماره اضافی اقبالیات سالیانه به فارسی هم انتشار بابد، ما بفال نیک می‌گیریم و از درگاره ایزد لا بزال مستلت می‌نهاییم که چنین شماره‌ای قبول خاطر سایر فارسی زبانان و پارسی دانان باشد و محتویات آن با دو بیتی زیر حضرت علامه اقبال وفقی تأم داشته باشند:

ز جان بی قرار آتش گشادم

دلی در سیمه مشرق نهادم

ر گل او شعله زار از ناله من

چون برق اندربناد او فتادم

نخستین شماره فارسی "اقبالیات" در قطع وزیری و با چاپ زیبا ۲۱۴ صفحه دارد و شامل ۱۱ مقاله و دو منظومه می‌باشد. می‌دانم که سرکار خانم دکتر شبین دخت مقدم صفاری در انتشار این مجله متحمل زحمات زیادی شده اند. مقاله‌ها با بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اقبال شناسی مربوط می‌باشند. البته یک سوم متن از اردو یا انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. شاید مقالات طبع زاد فارسی زیاد برای شماره‌ای بعدی در تحويل اکادمی خواهد بود زیرا عده زیاد فارسی نویسان اقبال شناس در ایران و پاکستان و کشوری‌ای دیگر وجود دارند و همگی بروانگان شمع اقبال می‌باشند.

محبت چون تهام افتاد رقابت از میان خیزد

بطوف شعله ای بروانه با بروانه سازد

(اقبال)

مقالات مندرج در این مجموعه بر ارزش و لائق مطالعه می‌باشند مثلاً جاذبه‌های کلام اقبال برای ایرانیان از دکتر محمد حسن مشائخ

فریدنی، غرب از نظر اقبال از محمد منور، علامه اقبال و قائد اعظم از دکتر وحید اختر عشرت و سخنی درباره جاویدان اقبال (ترجمه کتاب زنده رود) از دکتر شهین دخت مقدم صفیاری، آقای عبدالرฟیع حقیقت ارفع یک مخمس در صورت تضمین غزل "میلاد آدم" اقبال سروده است که بند غرای دوم آن بقرار زیرا است:

شوق پیکار زبیدار محیط دیبور  
در تلاش شری بود به شهر لاهور  
کرد از طالع فیروز چو اقبال ظهور "فطرت آشفته که از خاک جهان مجبور  
خود گری، خود شکنی، خود نگری بیدا شد"

در آخر تذکر دو نکته لازم میدانم:  
یکی این است که مقاله نویسان و مترجمین باید کاملاً مشخص باشند. در مندرجات شماره زیر بحث مثلاً مقاله "اقبال و شبنگلر" ترجمه آقای دکتر آفتاب لصغر مرقوم شده ولی از اصل متن (۱۵۷) این نوشته طبع زاد ایشان مشبوه می‌شود.

دوم اینکه مانند شماره‌های اردو و انگلیسی مجله فارسی هم باید نشانی کامل نویسنده‌گان را داشته باشد تا اقبال شناسان عزیزیک دیگر را بپر بشناسند و بتوانند بایک دیگر مکاتبه شمایند  
(دکتر محمد ریاض)

### \* خدا بخش لانبریری جرنل

خدا بخش اورینتل پبلک لانبریری، پٹنه، هندوستان .

ابھی کل کی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس جرنل کا پبلک شمارہ چھا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ۳۶ عدد تک شمارے شائع ہو گئے۔ اس کے پہلے شمارے کے تیور ہی بتارہ تھے کہ جس طرح خدا بخش لانبریری اپنے ذخائر مخطوطات کی وجہ سے ایشیا بھر میں نام ویر پہ اسی طرح اس کا ترجمان رسالہ بھی اپنے مشمولات کی بدولت محققین کے دلوں میں گھر کرے گا اور شہرت پائیں گا۔ سو ایسا ہی ہوا یہ جرنل اب تک جدید تحقیقات پر مشتمل کئی مضامین اور متعدد کمیاب یا غیر مطبوعہ متنوں شائع کرچکا ہے۔ اپنے مفید مندرجات کی بنا پر اس کا ہر شمارہ خاص شمارہ معلوم ہوتا ہے اور جس کا نام خاص شمارہ ہوتا ہے وہ خاص الخاص شمارہ دکھائی دیتا ہے۔

اس وقت اس جرنل کے تین شمارے پیش نظر ہیں۔

الف: مشترکہ شمارہ ۲۹ - ۳۰ - ۳۱

چودہ + ۱۵۸ + ۹۳ + ۱۰۲ ص. ۳۵ روپے -

کتب خانہ خدا بخش ہر سال کسی بھی علم کے مشرقی مخطوطات پر سیمینار منعقد کرواتا ہے اور اس میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے کتابشناس حضرات جمع ہوتے ہیں اور متعلقہ علم پر نادر یا متداول مخطوطات کے تعارف پر مبنی مقالات پیش کرتے ہیں۔ اب تک یہ کتب خانہ تصوف اور طب کے مخطوطات پر دو علیحدہ علیحدہ سیمینار منعقد کروا چکا ہے۔ زیر نظر مشترکہ شمارہ طب سیمینار میں پیش کیے جانے والے مقالات کا مجموعہ ہے۔ اسے ہم ہند و پاکستان میں عربی اور فارسی زبان میں طبی مخطوطات کی فہرست بھی کہے سکتے ہیں کیونکہ اس میں پشتو، علیگڑھ، کراچی کے بعض خصوصی کتب خانوں اور پاک و ہند کے دیگر کئی عمومی کتب خانوں کے طبی مخطوطات کے کوائف درج ہوتے ہیں۔

ب: مشترکہ شمارہ ۳۳ - ۳۲ - ۳۵

۱۶ + ۵۸۳ ص، ۳۵ روپے -

اس شمارے میں حافظ احمد علی خان شوق (م ۱۹۳۳ء) کی تصویف "تذکرہ کاملان رام پور" کے ۱۹۲۹ء دہلی ایڈیشن سے عکسی اشاعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رام پور ہندوستان کی سیاست کا مرکز بھی رہا ہے اور ثقافت کا بھی۔ یہ کتاب وہاں کے علماء اور اہل کمال کے علم و کمال کے تذکرے پر مبنی ہے۔ اکثریت فارسی شعرا اور مصنفوں کی ہے۔ بر صغیر میں فارسی ادبیات کی تاریخ کا ایک عمدہ مأخذ ہے۔ کتب خانہ خدا بخش نے اس تذکرے کی دوسری اشاعت کے موقع پر اس کے ساتھ بعض تصحیحات اور اضافے ملحق کئے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کتاب کا اشاریہ بھی مرتب کر کے ساتھ لگا دیا جاتا۔

ج: شمارہ ۱۱۶، ۳۶ + ۳۲ ص، ۱۵ روپے -

اس شمارے میں بھی دو نایاب متن دوبارہ چھائی گئے ہیں۔ ایک اردو کے معروف ادبی برجی "نگار" کے جنوری - فروری ۱۹۲۲ء شمارے کی عکسی اشاعت ہے۔ یہ شمارہ ۱۹۲۰ء کے شعرا کی اردو غزل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک مقالہ بطور ضمیمه ۱۹۲۰ء سے ۱۹۸۵ء تک اردو غزل کے بارے میں ہے۔ دوسرا متن "ثالث بالخير يا لذکی کی کارستانی" ہے۔ جو ترکوں کے موجودہ مغربی طرز زندگی پر ترک افسانہ نویس احمد حکمت کے ترکی ناول کا اردو ترجمہ ہے۔

### \* کتاب دوست

شمارہ ۱ "کنز الآثار صدیقی"

قومی هجرہ کونسل اسلام آباد۔

۸۳ ص، ربیع الاول ۱۳۰۶ھ، ۳۵ روپے۔

شمارہ ۲ "کتب خانہ القرشیہ قلعہ دار"

۱۰۸ ص، رمضان ۱۳۰۶ھ، ۳۵ روپے۔

کتاب شناسی ایک ایسا علمی موضوع ہے جس پر مغرب میں تو بھربور اور سائنسی انداز میں کام ہو رہا ہے مگر بارے ہاں پاکستان میں اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ یہ بات سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ تحقیق کے راستے "کتابیات" سے کھلتے ہیں۔ اس اہمیت کے باوجود کتاب شناسی جیسے موضوع کی طرف کم اعتمانی افسوس ناک ہے۔

اس وقت پاکستان میں کتاب شناسی کے بارے میں دو مجلے چھپ رہے ہیں۔ ایک نیشنل بک کونسل آف پاکستان لاہور کے زیر احتیام اردو ماہنامہ "کتاب" اور دوسرا لانبریوی آف کانگرس آفس (کراچی) کی AccessionsList۔ ماہنامہ "کتاب" کا تعلق زیادہ تر بازار کتاب سی ہے اور اس میں کتاب شناسی پر علمی اور ٹھوس مباحثت کم ہی نظر آتے ہیں۔ Accessions List پاکستان کی تازہ مطبوعات کے بارے میں واحد معلوماتی ذریعہ ہے مگر اس میں صرف ان کتابوں کا اندرج ہوتا ہے جو مذکورہ لانبریوی اپنے لیے خریدتی ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں تمام تازہ پاکستانی مطبوعات کی اطلاع منظر عام پر نہیں آتی۔

پاکستان میں مطبوعہ کتب کے علاوہ مخطوطات کا بھی غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے اور محتاج توجہ ہے۔ مگر ان مخطوطات اور ذخائر کے مسائل پر بھی کم بی گفتگو ہوتی ہے۔ خدا بھلا کرے دو ایرانی کتاب شناسوں کا جنہوں نے پاکستان میں قلمی نسخوں بالخصوص فارسی زبان کے مخطوطات پر توجہ دی اور ہمیں بتایا کہ بھارت پاس کیسے کیسے خزانہ علمی موجود ہیں۔ میرا اشارہ جناب محمد حسین تسبیحی صاحب "کتابخانہ ہائی پاکستان" اور جناب احمد منزوی صاحب "فہرست مشترک نسخہ ہائی خطی فارسی پاکستان" کی طرف ہے۔ پہلی کتاب پاکستان کے چار صوبوں میں بعض اہم کتب

خانوں میں مخطوطات کے مجمل کوائف پر مبنی ہے اور دوسری کتاب پاکستانی کتب خانوں میں فارسی مخطوطات کی مفصل روedad ہے۔ اب پاکستان میں "مخطوطات و قلمی دستاویزات کے تحفظ کی مہم" میں ایک اور قابل ستائش قدم اٹھایا گیا ہے اور وہ ہے قومی هجرہ کونسل، اسلام آباد کی طرف سے سلسلہ وار مجلہ "کتاب دوست" کا اجرا۔ اس مجلے اور مہم کی غرض و غایت یہ ہے کہ "ملک (پاکستان) میں ابل علم حضرات کے ہاں محفوظ مخطوطات اور تحریری نوادرات کا تعارف کرایا جاسکے۔ اس سے جیسا قومی سطح پر ان ذخائر کی اہمیت اور حفاظت کا احساس پیدا ہو گا وہیں زیاب کتب و مخطوطات کی فہرست اور پر ایک کے موضوع اور نفس مضمون کا خلاصہ احاطہ تحریر میں آکر محفوظ ہو جائے گا"۔ اس وقت کتاب دوست کے پہلے دو شمارے بھارے سامنے پیش ہیں۔ پہلا شمارہ راولپنڈی میں پروفیسر منظور الحق صدیقی صاحب کے ذاتی کتب خانے میں موجود مخطوطات اور کمیاب مطبوعات سے متعارف کرتا ہے اور دوسرے شمارے میں قلعہ دار (گجرات) میں جناب ڈاکٹر احمد حسین، قریشی قلعداری کے آبائی کتب خانے کے مخطوطات کی دستی فہرست شائع ہوئی ہے۔ اس مفید مہم کے افتتاح پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں

### جمالت آفتاب ہر نظر باد

زخوبی روی خوبت خوبت باد

اس مہم کی ضرورت اور افادت سے کسی کو انکار نہیں اور یہ شک "کتاب دوست" اس میں پیش گام ہے مگر اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جس طریقے سے یہ مہم سر کی جاری ہے آیا وہ مفید اور مثالی ہے؟ "کتاب دوست" کا پہلا شمارہ بلاشبہ محنت سے تیار کیا گیا تھا اور تیور بتا رہے تھے کہ

در تہانخانہ عشرت صنمی خوش دارم  
کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم  
لیکن دوسرا شمارہ دیکھ کر یہیں پھر حافظ شیرازی یاد آئی:  
خوش درخشید ولی "شعله" (۱) مستعجل بود  
پہلا شمارہ ظاہری اور باطنی حُسن سے مزین ہے، مخطوطات اور مطبوعات کے تعارف میں ایک ترتیب ہے، توازن ہے، تفصیل ہے، کتابت

(۱) اصل میں: خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود.

مناسب ہے، کاغذ عمدہ ہے مگر دوسرا شمارہ ۰۰۰ ایک طومار ہے، رطب ویاپس کا مجموعہ ہے۔ نہ ترتیب، نہ تفصیل، نہ سلیقہ، نہ ۰۰۰ کاغذ اور کتابت بھی ہمیشہ سے کمتر درجے کرے ہیں (جو بہرحال ایک ضمنی مسئلہ ہے) اصل موضوع رسالے کے محتویات اور انہیں پیش کرنے کے سلیقے کا ہے۔ بظاہر مخطوطات عربی، مخطوطات فارسی، مخطوطات اردو اور مخطوطات پنجابی کے الگ الگ ابواب بنائے گئے ہیں مگر چاروں حصوں میں دوسری زبانوں کے مخطوطات بھی ملا دئے گئے ہیں۔ موضوعات کے عنوانات بھی موجود ہیں مگر "عربی کتب السیر و التاریخ" میں مولانا جامی کی فارسی لوائح اور هفتاد بیتی (۱) در آئی ہیں (ص ۲۳)۔ اگر ایک کتاب کے متعدد نسخے ہیں تو ہر نسخے کے ساتھ مصنف کا نام مع القاب وغیرہ درج کیا گیا ہے جو سراسر غیر ضروری ہے۔ بعض ہے سروبا کتابوں کا اندراج کیا گیا ہے جن کا عنوان، مصنف، کاتب کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ اندراجات محضر "سیاہی لشکر بڑھانے" کی لیے ہیں۔ ان اندراجات کی افادیت ہے، نہ اس کے حوالے سے متعارف ہونے والی کتاب کی۔ مثلاً اوراق متفرق بطرز جنگ مصنفہ و کاتبہ ناشناختہ (ص ۳۸)، انشاء ناشناختہ مصنفہ و کاتبہ ناشناختہ (ص ۳۹) اور دیگر متعدد کتابیں جن کی مثال دینا تضییع اوراق ہوگا۔

پیش لفظ میں لکھا ہے کہ کتبخانہ القرشیہ میں تین ہزار کے لگ بھگ مخطوطات محفوظ ہیں جن میں سے تقریباً پونے دو ہزار کا تعارف پیش کیا گیا ہے مگر آگئے چل کر صفحہ ۸ پر یہ اطلاع دی گئی ہے کہ اس کتبخانہ میں کوئی ڈیڑھ ہزار کے قریب مخطوطات ہیں؟؟؟  
ہر باب کے آخر میں ایک عنوان "کتب نو وارد" کا ہے۔ یہ کتابیں کتاب خانے کے لیے نو وارد ہو سکتی ہیں مگر اس فہرست کے لیے نہیں۔ یعنی ان نو وارد کتابوں کو زیر نظر فہرست شائع کرتے وقت اپنے مقام پر درج کیا جاسکتا تھا۔ دراصل یہ ساری خرابی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ناشر کو صاحب ذخیرہ کی طرف سے انہی کی مرتبہ جو ہینڈ لسٹ موصول ہوئی اسے کسی تصحیح اور ترتیب کے بغیر چھاپ دیا گیا ہے اور یہ امر نہ صاحب ذخیرہ کے لیے باعث افتخار ہوا نہ ناشر کی نیک نامی میں اضافہ کر سکد۔

کتاب دوست کے اس شمارے سے وابستہ جتنے افراد ہیں ان سب سے اس مبصر کا سالہ اسال سے قلبی تعلق استوار ہے، میری اس تلغخ نوائی ہر وہ یقیناً رنجیدہ ہوں گے مگر میں نہایت اخلاص سے کہہ رہا

ہوں کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ شمارہ ان فاضل احباب کے علمی  
مرتبے کے شایان شان نہیں اور اسے دیکھ کر مجھے نہایت مایوسی ہوئی  
ہے۔ جب اتنے افضل کی بہترین استعداد رو بکار ہو، وسائل موجود  
ہوں، مقابلے کا میدان خالی ہو تو پھر کیون نہ ایسی چیز پیش کی جائے  
جس سے ہم نیاز مندوں کا سر بھی فخر سے بلند بوجائے۔  
امید ہے کہ مخطوطات اور نوادر کے تعارف کا یہ مفید سلسلہ  
علمی ہائے بر کھڑا کیا جائے گا اور اسے جاری رکھا جائے گا۔

### ۳۳۳۳

#### جامی عینک می زد؟

حضرت خاتمه الشعرا و خاتم العرفاء  
مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی ہروی در  
پیری عینک استعمال می کرد و بقول وی  
عینک از دیار فرنگ می آمد۔ این قضیہ را  
از اشعار جامی بیدا کردم۔ در چکامہ شیوا و  
ممتاز پیری کہ باین مطلع است  
سبید شد چو درخت شگوفه وار سرم

چنین گوید:

دو چشم من شده از عینک فرنگ چهار  
هنوز بس نبود در تلاوت سورم  
و در مشنوی سلامان و ابسال بازهم در  
شکوه از پیری گفتہ:

از دو چشم من نباید هیچ کار  
از فرنگی شیشه ناگشته چهار  
دلچسپ است بدانیم در عصر حضرت  
جامی عینک در هرات از کدام شهر فرنگستان  
و از کدام راه وارد می شد؟

خلیل اللہ خلیلی - اسلام آباد  
اول ربیع المولود ۱۴۰۷ھ

## اجتجاجات و استدراکات

- \* دانش میں مطبوعہ ہر مقالے پر اظہار رائے کیا جاسکتا ہے۔
- \* رد و فیول، متنات اور علمی دلائل کے ساتھ ہونا جائز ہے اور کسی طرح بھی مقالہ نگار کی ذات کو مخاطب اور ملوٹ نہ کیا جائے۔
- \* ہر مقالہ نگار کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔

## شمارہ سوم

لکھنؤ سے ہمارے عزیز اور محترم قاری جناب رئیس نعمنی نے حسب سابق دانش کر تیسرا شمارہ پر اپنا مبسوط تبصرہ ارسال کیا ہے۔ ان کی زیادہ تر ملاحظات ڈاکٹر اکبر حیدری کاشمیری کے مضمون "فارسی شعراء کے دو نایاب اور غیر مطبوعہ تذکرے: آئینہ حیرت اور طور معنی" کے بارے میں ہیں۔ چونکہ خود نعمنی صاحب بھی ان تذکروں کی تصحیح میں مصروف ہیں اس لئے وہ ان کے محتویات سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ نعمنی صاحب نے جن تسامحات کی طرف توجہ دلاتی ہے ان کا تعلق "آئینہ حیرت" اور "طور معنی" کے مخطوطات کی فرائت سے ہے اور ان کا خیال ہے کہ محترم ڈاکٹر کاشمیری نے نسخوں کو صحیح طور پر نہیں پڑھا۔ (دانش)۔

## ۴۳ چہار گنтар علاء الدولہ سمنانی

صفحة	سطر	نادرست	درست	المتصـل اسـنـادـه
۱۸	۱۰	المـتصـلـ أـسـنـادـه		المـتصـلـ اـسـنـادـه
۲۸	۲۱	شاه برجاہ		شاه براجاہ
۳۱	۱	در وجود		در وجود
۶۵	۲۶	بلعم باعور در زمان عیسیٰ (ع) نبود بلکہ همزمان موسیٰ (ع) می زیستہ است۔		بلعم باعور در زمان عیسیٰ (ع) نبود بلکہ همزمان موسیٰ (ع) می زیستہ است۔

## ۴۴ ۰۰۰ ثلاٹھ غسالہ: ایک تعارف

۹	گلزار هند	۱۵۰
"	تذکرہ هندی و هندی گویان تذکرہ هندی گویان	"
۱۶	سخن شعراء	"

۲۳ فارسی شعراء کے دو نایاب اور غیر مطبوعہ تذکرے: آئینہ  
حیرت اور طور معنی

۱۶۰ ۲۱-۲۲ "تذکرہ النساء" کتاب کے مشتملات کی رعایت سے  
اس وقت کی رائج اصطلاح کے مطابق استعمال ہوا  
بے ورنہ مؤلف نے تذکرے کا نام صرف "آئینہ حیرت"  
رکھا ہے۔

۱۶۱ ۵ یہ تذکرہ ۳۴ کی بجائے ۲۹ شاعرات کے ذکر پر  
مشتمل ہے۔

خیام سبزواری	۱۱	"
خانمی	۱۸	"
ملہجی	۷	۱۶۲
بیچہ شاہی	۱۵	"
بیچہ پہشتی	۱۶	"
بادہ ایجاد	۲۲	"
تیز درونان / نعمت	۱	۱۶۳
ارکان مبین	۴	"
تاج و عفت	۶	"
تعظیم او را حسن	۹	"
تخصیص ندامت	۱۲	"
معنی آنبا به افتتاح قول	۱۴	"
جهانست	۱۵	"
نصیب چیست	۲۳	"
آنینہ وار	۲۴	"
بگفت مریبو الحق	۶	۱۶۴
خوبرو سلیقه	۱۰	"
نزاكت پسندان	۱۲	"
آن رانا آشنايانه	۱۴	"
آئینہ حیرت کے چار مأخذ بتائے گئے ہیں جب کہ اس تذکرے میں کم از کم نو کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ مقالہ نگار نے ایک مأخذ "مفرح القلوب" از نعمت خان عالی کا ذکر کیا ہے۔ عالی کی اس نام کی کوئی کتاب نہیں ہے۔	۲۱	"

۱۸ ۱۶۵ طور معنی کا سال تأليف ۱۲۵۹ ہلکھا گیا ہے  
 مگر جو مادہ تاریخ (طور معنی چون مطلع نور است)  
 پیش کیا گیا ہے اس کے اعداد ۱۳۱۰ بنتے ہیں۔ اگر  
 "طور معنی چو مطلع نور است" ہو تو اس کے عدد  
 ۱۲۶۰ بنتیں گے۔

۱۶۷	۱۴	۲۳	اشعار کہ دید
		۲۴	اوپرنگ از هریک
۱۶۶	۲۴	۲۴	گلدستہ بندی ہا و شگفتہ گلدستہ بندی از هار شگفتہ
۱۶۷	۶	۶	درین وادی کبک و درین وادی گنگ و
			تیزدشتی کلک تیزدشتی کلک
۱۶۷	تا		مقالہ نگار نے ۲۴۶ شاعروں کے نام لکھئے ہیں اور ان
۱۷۷	۲۲		میں بھی کئی جگہ ایک نام کرے دو نام بنانے ہیں۔
			جب کہ اصل مخطوطے میں ۲۹۳ شعرا کے تخلص
			سرخ روشنائی سے لکھئی ہوئے ہیں اور کچھ شعرا کا
			ضمنا بھی ذکر آیا ہے۔
۱۶۷	۲۲	۲۰	سید قطب الدین امیرانی سید قطب الدین، امیر،
		۲۰	انسی
۱۶۸		۲۰	وہبی قزوینی
"		۲۲	مرزا محسن تاثیر
۱۶۹	۱	۱	جلال خان جلالی
		۸	مولانا جنتی
		۲۰	مولانا خضابی
۱۷۰	۲۰	۲۰	مولانا سیمی
۱۷۱	۲	۲	مولانا نوری
۱۷۲	۱۳	۱۳	صفیری صغیری
"			۱۴-۱۵ مسیحای کاشی اور صاحب ایک بھی شخص ہے۔

۱۷۴	۱۳	عبدالله راضی
	۲۰	حسن بیگ گرامی
"	۲۲	مولانا گلخنی
"	۲۴	عبدالله حامل
۱۷۵	۵	مبیدی علی لدنی

۱۷۵ ۶ لطفی جونپوری      لطفی جونپوری  
 " ۱۴، ۱۳ الف ابدال اور مطلع ایک ہی شخص ہے اور دوسرا  
 لفظ مطلع نہیں، مطیعی ہے جو الف ابدال کا  
 تخلص ہے۔

۱۸ ۱۹ میر محمد کاشی اور معصوم ایک ہی شخص ہے۔  
 معصوم، میر محمد کاشی کا تخلص ہے۔

۱۷۶	۱	بابا حسین مطلع	بابا حسین مطلع
"	۳	اسماعیل منصف	اسماعیل منصف
۱۲	..	نظری همدانی	نظری همدانی
۲۲	..	حاجی محمد نشانی	حاجی محمد نشانی
۱۷۷	۳	نور الدین واقف	نور العین واقف
"	۲۲	سید الدین	سید الدین

۱۷۸ ۵-۳ مقالہ نگار لکھتے ہیں " مؤلف نے بعض مشہور  
 فارسی شاعروں کا ذکر کر ۰۰۰ بالکل نہیں کیا ہے۔  
 مثال میں خان آزو اور مرزا غالب پیش کئے  
 جاسکتے ہیں "۔

تذکرہ میں آزو کا ذکر مخطوطے کے ص ۸-۹ بر  
 ثبت ہے اور غالب کا ذکر اسد کے نام سے آخری اور اق  
 میں موجود ہے جو بیاض کی شکل میں ہیں اور  
 مؤلف اپنی زندگی میں ان کو متن میں داخل  
 نہ کر سکاتا۔

۱۶	سرمه سای خموشی	سامری خموشی
۲۱	اکثر مشاعران	اکثر مشاہیران
۱۷۹	۱۰ "در زمانی کہ فقیر در لکھنو بود ۰۰۰ غلغله شاعری انداخته" یہ عبارت اصل مخطوطے میں عیشی کے ذکر میں نہیں ہے بلکہ ناطق مکرانوی کے ترجیح میں لکھی ہے۔	" ۱۱ "در زمانی کہ فقیر در لکھنو بود ۰۰۰ غلغله شاعری انداخته" یہ عبارت اصل مخطوطے میں عیشی کے ذکر میں نہیں ہے بلکہ ناطق مکرانوی کے ترجیح میں لکھی ہے۔

### ۲۳ فارسی ادب بعد سلاطین تغلق پر تبصرہ

۱۸۶ ۱۶ بہار الانساب اور بہار المعانی کے مقابلے میں  
 جو الفاظ بخار الانساب اور بخار المعانی لکھی  
 گئے ہیں وہ بھی نادرست ہیں۔ یہ دونوں نام  
 بخار الانساب اور بخار المعانی ہیں۔ یہ دونوں

محمد بن جعفر مکی کی تالیف ہیں -

۱۸۷ فقہ فیروز شاہی اور فتاویٰ فیروز شاہی کے متعلق مبصر کی رائے درست معلوم ہوتی ہے بظاہر یہ دونوں ایک ہی کتاب کے مختلف نام ہیں -

### ۳۳۳۳۳

#### تبصرے پر تبصرہ

جناب رئیس احمد نعمنی کا تبصرہ پڑھا - اس تبصرہ کے متعلق چند عرض داشت پیش ہے -

چشتی صوفیہ سے منسوب ملفوظات کی تردید ہروفیسر حبیب صاحب نے کی تھی جو غلط فہمی کی بناء پر تھی - اس موضوع پر ڈاکٹر ممتاز علی خال اپنی پی ایچ ڈی تھیس "تیریوین صدی میں ہندوستان میں فارسی نشر" میں بحث کرچکرے ہیں جس سے بھی بعض غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے - یہ تھیس چھپ چکی ہے - اس تھیس کی اطلاع ہروفیسر بروس (ڈیوک یونیورسٹی، امریکہ) کو بھی نہیں تھی اس لیے انہوں نے بھی اپنی کتاب "صوفی لٹریچر ہندوستان میں" میں ہروفیسر حبیب کا اتباع کیا ہے - ان تمام ملفوظات کو یہ کلم بغیر دلیل کے مسترد کر دینا درست نہ ہو گا -

یہ کہنا کہ صوفیہ نے بالعلوم قرآن کی تفسیریں غلط بیان کی ہیں بہت بڑا دعویٰ ہے جو محض لا علمی کی بناء پر کیا جاسکتا ہے - ایسے دعووں سے احتراز ضروری ہے -

احادیث کے انتساب میں صوفیہ سے ضرور لغزشیں ہوئی ہیں لیکن بہر بھی ان کے اقوال کو غیر اسلامی نہیں ثابت کیا جاسکتا - احادیث کے انتساب میں اشتباه کا سبب بھی بھی ہے کہ یہ اقوال غیر اسلامی نہیں ہیں -

بعض فارسی کلام کی شرحیں صوفیہ نے اپنے اصول کے مطابق کی ہیں - ان کی مراد ان کے ذوق کے مطابق ہے - انہوں نے شعر فہمی کے لیے اپنی اصطلاحات بھی وضع کی ہیں - اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ ان کی تشریحات ہماری فہم کے مطابق نہ ہوں -

جبکہ تک رباعی شاہ است حسین ۰۰۰ الخ کا تعلق ہے اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ نہیں معلوم ہے کہ اس کا مصنف کون ہے - لیکن رباعی کی معنویت کے پیش نظر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مصنف کوئی عارف کامل ہے - رباعی بہت دقیق ہے - عوام تو درکنار

خواص کی فہم سے بھی بالاتر ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس پر کوئی  
بحث نہ کی جائے۔ اس رباعی کی وبی تاویل قابل قبول ہوگی جو  
اسلام کے بنیادی عقیدہ سے متصادم نہ ہو۔

مضمون "ایک بیاض نادر شعر فارسی" پر اجمالی رائے ہے لیے ہی  
آچکی تھی رئیس احمد نعمنی صاحب نے اس کی تفصیلات پیش کر دی  
ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبصرہ نگار نے مندرجہ تمام اشعار کا بڑا  
غائز مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے بھی ایک سرسری نظر ڈالی جس سے اندازہ  
ہوا کہ ان تفصیلات میں مزید اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ ہماری نظر میں  
صرف ایک مذکورہ بالا مضمون ہے اس لیے صرف اس ایک مضمون  
سے بعض مزید اغلات کی مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

صفحہ ۲۷ پر رباعی "از درد فراقت ای به لب شکر ناب" کے بارے  
میں چند معروضات درج ہیں:

(۱) یہ رباعی اس مضمون میں امیر معزی سے منسوب کی گئی  
ہے اور اسے غیر مطبوعہ کہا گیا ہے جبکہ یہ رباعی چھپ چکی ہے اور  
ابوالفرج رونی سے منسوب کی گئی ہے۔ (دیکھیے ترانہ پا گرد اور دہ  
دکٹر برویز نائل خانلری، انتشارات نوین ۱۳۵۳)

(۲) دوسرا مصرعہ وزن سے خارج ہے دکٹر برویز نائل خانلری نے  
اس کو یوں لکھا ہے اور درست لکھا ہے:

نی روز مرا قرار و نی در شب خواب (ترانہ پا مزبورا

(۳) تیسرا مصرع میں "از" کے بجائے اے ہونا چاہیے یعنی ای در  
خوشاب اسی رباعی کے بعد مضمون میں یہ رباعی ہے: "ہرگز ز ضمیر  
من ۰۰۰ الخ"

(۴) اس رباعی میں دوسرا مصرع وزن سے ساقط ہے۔ اکنون کے  
بجائے کنون ہونا چاہئے۔ اس کا وزن یہ ہے مفعول مقاعلن مقاعیلین  
فاع

(۵) تیسرا مصرع میں سگی کے بجائے سگ ہونا چاہیے۔  
دراصل رباعی کے تصحیح کی توقع کسی ایسے آدمی سے نہیں  
کی جاسکتی جو اس کے تمام اوزان سے وافق نہ ہو۔

وحید اشرف۔

## گامی چند با کاروانِ حله

پس از انتشار مقاله "گامی چند با کاروانِ حله" در شماره سوم نشریه دانش یکی از برادران افغانی مکتوبی ارسال داشت مشتمل بر اعتراضات بسیار به دو سه عبارت از مقاله مذبور. در اینجا عین مکتوب را بدون کم و کاست (و تنها با حذف عنوان) درج می‌کنیم و به دنبال آن پاسخ‌های نویسنده مقاله را می‌آوریم. داوری هم با خوانندگان.

شماره سوم مجله دانش مؤرخ پانیز سال ۱۳۶۴ مطبوع پاکستان را که بنفقة مؤسسات فرهنگی جمهوریت محترم اسلامی ایران طبع و انتشار می‌یابد، خواندم و همدرسان دگرمن نیز خواندند.

درین شماره مقاله معنون به "گامی چند با کاروانِ حله" و در آن مقاله اطالة لسان و سوء ادبی که راجع بمقام والای سلطان هفت اورنگ سخن و عارف بزرگ قرن نبیم هجری، مولانا نور الدین، عبدالرحمن جامی هروی، همشهری ما بعمل امده بود موجب تحریر و تأثیر گردید. نویسنده این مقاله فراموش کرده که سخنواران زبان دری به اکثریت قاطع کتب و دواوین خود را به القاب سلاطین و امراء زمان شان مصدر نموده اند.

از امام الغیب فخر العارفین مجدد بن آدم سنائی غزنوی تا عصر ما این شیوه معمول بوده، حتی مولانا جلال الدین بلخی رومی که کتابش را قرآن پهلوی خوانده اند در مکتوبات خود بوصف این طائفه پرداخته، تا چه رسید به شیخ اجل سعدی و خواجه سخنواران حافظ. حتی شیخ اجل که دیباچه کتاب همایونش را بنام سعد پسر زنگی آغاز کرده و امیر ملک معرفت و سخن خسرو دهلوی تا میرزا عبدالقادر بیدل، تا ستاره اقبال اسلام علامه محمد اقبال این کار را کرده اند.

ویژه ابو المعانی میرزا عبدالقادر بیدل که در (میان) متاخران عارفیست منزوی و سخن پردازیست مستغنى.

و خودش میگوید: شعری که در نهاد کسان کدیه پرورد، بر لفظ او بشاش، و بمعنای او بری. اما باوجود این، در ایام جوانی قطعاتی در مدح امرای خود دارد.

و حکیم امت، احیا کننده افکار مسلمانان در روزگار ماعلامه محمد اقبال (بخوانید) در منظومه مسافر که پادشاهان افغانستان را بچه پایه ستد (است).

نمیدانم چیست که در میان این‌ها، نویسندهٔ مقاله بر شخصیت بزرگ اسلام و مایهٔ افتخار مسلمانان و شیخ طریقه نقشبندیه، مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی انگشت انتقاد نباده و از دگران چشم پوشیده. در حالیکه سلاطین و خواجه‌گان عصر جامی احترامی که به پایهٔ والای فضائل علمی و عرفانی و سخنوری جامی داشته اند والاً از چند شعر است که جامی در ستایش آنها سروده. نه تنها سلطان ادب پرور و هنر دوست حسین بایقرا و وزیر بی نظیرش امیرعلی شیرنوائی و امیر یعقوب بیک، بلکه سلطان بایزید ثانی سلطان البر و البحر نیز این احترام را داشته و جامی را به استانبول زیبای خود مرکز مسلمانان جهان دعوت نموده و جامی دعوت را تأجیل کرده. چون این مقاله بر بنای تحقیق در احوال جامی و شرح تعظیم سلاطین و امراء عصرش در مورد وی نیست. تنها بذکر یک رباعی اکتفا می‌کنم که خواجه بزرگ، وزیر دانشمند، امیر علی شیرنوائی. هنگام بازگشتن جامی از سفر حج (به راه شام) به حضرت وی تقدیم داشته برای مثال درینجا می‌آورم.

انصاف بدء ای فلک مینا فام

زین هر دو کدام خوبتر کرده خرام

خورشید زمین گرد تو از جانب صبح

یا ماه جهانگرد من از جانب شام

مگر نویسندهٔ محترم این قطعهٔ جامی را نخوانده است که گویا خودش در باسخ مفتریات گفته و شرح داده است که قطعات مدحیه من استدعا نیست نه تقاضانی. یعنی شاهان از وی استدعا کرده اند که نام آنها را به شعر خود مزین گرداند نه آنکه وی از آنها مانند اکثر گویندگان تقاضانی داشته باشد.

جامعی می‌گوید:

هست دیوان شعر من اکثر

غزل عاشقان شیدانی

با فنسون نصایح است و حکم

منبعث از شعور دانانی

ذکر دونان نیابی اندر وی

کان بود نقد عمر فرسانی

مدح شاهان در او به استدعا است

نه زخوش خاطری و خود رائی

امتحان را اگر زسر تا پاش  
پروی صدره و فرود آشی  
زان نصایح بخاطرت نرسد  
معنی حرص و آز بیهانی  
هیچ جا نبود آن مداعی را  
در عقب قطعه (ای) تقاضانی

نویسنده مقاله شگفت است که بچند بیت جامی یا بدیباچه بانی که مرسوم همه گویندگان و در اثر استدعا شایان بوده، سخن سرائی کرده آنهمه نصایح و اندرزهانی را که جامی بمشابه شلاق عبرت مکرر در مکرر بیاورده، ذکر نکرده و از تمام کتب و آثاری که نظماً و نثرآ در ظرف پنجصد سال بمقام والای جامی گواه صادق است، صرف نظر نموده و تنها بیک نسخه مجمعول و مجبول که هرگز علمای ثابت نشده که در کدام عصر نوشته شده استدلال کرده، (این کتاب درین پنج قرن کجا بود؟). آیا جای تأسف نیست که پیشوای هزاران مسلمان از بخارا و سمرقند، افغانستان و کردستان و به عرب و سرتاسر مسلمانان نیم قاره به این استدلال ضعیف و روایت واحد، سالوس، تملق و ریا کار خوانده شود. در اخلاق اسلامی فریب دادن، ریا و تملق از اکبر جرائم است.

نویسنده مقاله فراموش کرده است که هنوز کتب جامی و ذکر جمیل وی در مدارس و مراکز عرفانی محل استفاده مسلمانان است.

نویسنده دور نمی رفت تنها آثار عارف شهید استاد مطہری را در ایران مطالعه میکرد، تا میدانست بزرگان، بزرگان را به چه نیکی یاد میکنند، در مدارس سرمیزد و می دید کتب جامی با چه احترام هنوز دست بدست استادان و ارباب تحقیق میگردد.

این نو خاستگان چنین افتراضی را در باب دیباچه کتاب اخلاق ناصری نیز روا داشته اند. آیا محل تأسف نیست درین ایامیکه قوا ملحد خدا نشناس و دشمن اسلام تربت پاک و آرامگاه جامی را در هرات بمبارد کرده است؛ مسلمانی در پاکستان قد علم کرده و قلم بردارد (بدلیل مجمعول) آن عارف بزرگ را مورد طعن و تشنيع قرار دهد. پس وحدت اسلام کجا شد که حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظله در ایران آن را اعلان نموده و نظام اسلام که در پاکستان حکمفرماست.

تو از اغیار مینالی و من از یار مینالم

امضاء ط، ع، ق، هروی .

یاد داشت نویسندهٔ مقاله  
برای بورسی آنچه در مکتوب آمده، نخست آن را در چند بند خلاصه  
کنیم:

الف - جامی در علم و ادب و دین و عرفان پایگاهی بلند و در نزد  
عام و خاص و عارف و عامی مرتبی ارجمند دارد و آثار او بسی ارزشمند  
و سودمند است و نویسندهٔ مقاله که او را مورد طعن و تشنيع قرار داده  
و اطالهٔ لسان و سوء ادبی به وی به عمل آورده و او را سالوس و متعلق  
و ریاکار خوانده کاری ناروا مرتکب شده و همبستگی مسلمین و اتحاد  
امت اسلام را به خطر انداخته.

ب - ستایش شاهان و دولتمردان در آثار بسیاری از شاعران و بزرگان  
آمده و تنها جامی را نباید به این گناه گرفت و محکوم کرد.  
ج - مقدمهٔ دیوان اول جامی که در آن مقاله مورد استناد قرار گرفته  
مجعول است.

د - چرا آن همه نصایح و اندیزه‌هایی که جامی به مشابه شلاق عبرت  
مکرر در مکرر آورده ذکر نشده؟

در مورد بند الف: حقیقت آنکه مقام والای جامی در علم علم و ادب  
و عرفان و دیانت، و در نزد عام و خاص و عارف و عامی، و نیز اهمیت و  
ارزش آثار او به هیچ وجه مورد انکار نویسندهٔ مقاله نبوده - برخلاف  
آنچه معارض محترم وا نمود فرموده‌اند - و در این باب نیازی به تذکرات  
غلاظ و شداد ایشان نیست - آیا ایشان نمی‌دانند که اینجانب به عنوان  
مسئول مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان کتاب مفصلی را که در  
شرح احوال و ذکر فضایل جامی به اردو ترجمه شده بود جزء انتشارات  
این مرکز و با هزینه آن به چاپ رسانید. و مقدمه‌ای پراز تجلیل و ستایش  
از جامی بر آن نگاشت که در آن بیش از معارض محترم درباره مقام  
جامی و اهمیت آثار اوی قلم فرسانی کرد و به انتشار کتاب لواح جامی  
و ترجمه انگلیسی آن از سوی این مرکز اشارت نمود و این که - کتاب  
دیگر او - شواهد النبوة را در دست تصحیح داریم تا هرچه زود تر به نحو  
مطلوبی چاپ شود.

اگر ایشان آن مقدمه و آن کتاب را (۱) ندیده اند بفرمایند تا نسخه آن  
را برایشان بفرستیم. گرچه ایشان حتی آنچه را در آن مقاله مورد

(۱) همچنین ترجمه "با کاروان خُلَه" از انتشارات این مرکز را که صفحه ۳۵۱ تا ۳۶۲ آن در  
دکر احوال و شرح فضایل و تجلیل آثار جامی است.

اعتراض در تایید مقام جامی در علم و ادب و عرفان و دین بوده (۲) نخواسته ببیند و تنها آنچه را گمان می کرده جای ایراد دارد به نظر مبارکشان رسید است.

این نیز که جامی با عنوان سالوس و متعلق و ریاکار یاد شده ۰۰۰ معارض محترم توجه نفرموده اند که این بخش مقاله، نقل از کتابی دیگر و صاحب قلمی دیگر است و حتی اگر کفر باشد نقل آن کفر نیست چه رسید که خود این ناچیز صریحاً در مورد آن نوشته است: این گونه تعبیرات تند را نویسنده این مقاله به کار نمی برد و تایید هم نمی کند. بنگرید به مأخذی (۳) و برای آن که خوانندگان مقاله حتی به این عبارت توجه کنند و خیلی زود هم آن را ببینند، به جای این که مثل همه حواسی آن در پایان و درلا به لای (پیوست ها) بیاورد در پائین صفحه آن را ذکر کرده و تعجب است که معارض بسیار دقیق و حقیقت جوی و منصف ما آن را ندیده اند و ندانسته اند که حتی نقل این عنوانین برای رد کردن آنها و دفاع از جامی است و برای توجه دادن به این که منسوب کردن جامی به ستایشگری مستلزم چنین نسبت ہانی به او نیست.

مراد از "طعن و تشنج" به جامی و زبان درازی و بی ادبی نسبت به او نیز اگر عنوان سالوس و ۰۰۰ است که پاسخ آن گذشت. اگر هم بحث درباره ستایشگری های جامی را - ولو بالحن مؤدبانه و بانفی نسبت سالوس و ۰۰۰ از وی باشد - طعن می شمارند و یا اعتقاد به وحدت مسلمین منافق می دانند. گمان نمی رود تحلیلگران بصیر با ایشان موافق باشند. چراکه بالآخره هر کس - در هر مرتبه ای از عظمت باشد - نمی توان از داوری درباره او خود داری کرد و گرنه باید باب بورسی های تاریخی را یکباره مسدود ساخت. گذشته از اینکه آنچه ایشان طعن و تشنج های ما به جامی شمرده اند حتی یک صدم گزندگی طعن و تشنج های مولانا جامی به فیلسوفان و برحی از فرقه های اسلامی و بعض از عرفان و دیگر بزرگان را ندارد ۰۰۰

در مورد بند ب: نیز افاضات ایشان توضیح و اضطراب و تشریح بدینهای است و صاحب این قلم خیلی بیش از ایشان به موضوع توجه داشته و در مقدمه مفصل "جهانگشای خاقان" (از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان) به این نکته اشاره کرده است که: "آثار بسیاری از بزرگان گذشته از جمله علامه اقبال متفکر و سخنسرای انقلابی - از نام و ستایش قدرتمدان پیراسته نیست و بنا بر این

(۲) از جمله در عبارات مذکور در صفحه ۹۰ از شماره سوم مجله دانش.

(۳) همان مأخذ صفحه ۱۲۵ بآورقی.

نباید از میان آنها یک تن را گرفت و به این جرم محکومیت مطلق او را صادر کرد. نگاه کنید به همان مأخذ صفحه سی و پنجم "هدف آن مقاله نیز نه محکوم کردن جامی بلکه رسیدگی به دو دعوی مخالف بود:

۱- جامی ستایشگر سلطان و وزیر نبود (مجله دانش شماره ۳ صفحه ۱۲۳)

۲- جامی دست به کاری زده است که جز ریا و سالوس و تملق نامی بر آن نمی توان نهاد (همان مأخذ - صفحه ۱۲۵)

و ما روشن کردیم که هیچ یک از این دو دعوی صحیح نیست و واقعیت امر چیزی بوده است ما بین این دو، و شگفتا که معارض محترم تنها نظریه دوم را که در آن مقاله برای رد شدن مطرح گردیده، به ریش نویسنده مقاله بسته اند و هو چنجال راه انداخته اند، در حالی که بنا برین این شیوه مرضیه ایشان، نظریه اول را هم می شد به نویسنده ناچیز نسبت داد.

در مورد بندج نیز باید پرسید چه دلیل بر جعلی بودن آن مقدمه دارد؟ اگر می فرمائید "معروف آن است که وی دیوان اول خود را در زمان سلطان حسین باقیرا گرد آورده" عرض می شود که "رب شبهه لا اصل لها" وانگی با نوشتۀ مؤلف "حبیب السیر" که خود در روزگار جامی متولد شده چه باید کرد که صریحاً می گوید: "مولانا دیوان اول خود را در زمان سلطان ابوسعید ترتیب داده" اگر هم اشکال شود که چرا از مقدمه مذبور فقط یک نسخه باقی مانده و این نسخه درین پنج قرن کجا بوده؟ جواب این است که اولاً یک نسخه بودن یک اثر و ناشناخته ماندن آن در طول قرن ها دلیل قاطعی بر مجعلوی بودن آن نیست و بسیاری کتاب هارا سراج داریم که از آن هایک نسخه بیشتر شناخته نگردیده و آن هم بس از قرن ها که دور از دسترس محققان بوده - یانکه هیچ کس در صحت نسبت آنها به مؤلفانش تردید ننموده . ثانیاً یک نگاه سطحی بیندازید به فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان ص ۸۳ - ۴۸۲ و فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان ج ۷ ص ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۸ و فهرست نسخه های خطی فارسی ج ۳ ذیل شماره های ۶ - ۲۲۰۹۰ و ۲۲۱۰۷ و ۲۲۱۷۵ و فهرست های دیگر تا بیینید:

۱- کثیری از نسخه های معتبر دیوان جامی با همان عبارتی آغاز می شود که در مقدمه مذبور می بینیم: موزون ترین کلامی که غزلسرایان انجمن و انس و محبت ۰۰۰ و نه با عبارتی که در چهار مقدمه شناخته

شده وی بر مجموعه های اشعاری دیده می شود. و این یعنی وجود نسخه های فراوان از مقدمه مزبور و نیز از دیوانی که جامی به نام سلطان ابوسعید پرداخته.

۲- بسیاری از نسخه های معتبر موجود دیوان جامی پیش از سال ۸۸۴ که گفته می شود وی برای اولین بار دیوان خود را در آن تاریخ به نام سلطان حسین بایقرا گرد آورده، کتابت شده و پاره ای از نسخه های آن نیز بواسطه یا بیواسطه از روی نسخه پائی استنساخ شده که پیش از تاریخ مزبور تدوین و کتابت گردیده. و این مؤید آن است که جامی پیش از روزگار سلطان نامبرده در دور سلطان ابوسعید و به جامی وی دیوان خود را جمع آورده بود.

۳- بعضی نسخه های دیوان جامی نیز در فهرست با به این گونه معنی می شود؛ به نام شاه ابوسعید است.

گذشته از این ها اشعاری که در شماره سوم مجله دانش (ص ۴ - ۱۲۳) آوردهم و گفتیم که جامی در ستایش سلطان ابوسعید سروده و در مقدمه مزبور گنجانده، تمام آنها در ضمن یک مثنوی شصت بیتی در مدح سلطان مزبور در دیوان چاپی جامی نیز موجود است (ص ۵ - ۷۷۳) و از همان اشعار و قبل و بعد آنها (از جمله این مصرع: هرچه داری به عرض شاه رسان) می توان فهمید که جامی مجموعه اشعار خود را تاختت به نام سلطان ابوسعید کرده، بعلاوه این که در آن مقدمه و آن اشعار چیزی نیست که نتوان به جامی نسبت داد و این شاعر نامی از این گونه سروده ها در ستایش سلاطین بسیار دارد. و نمونه آن در ستایش همین سلطان ابوسعید را در ص ۲، ۳ و ۴۲۸ دیوان چاپی وی می توان یافت.

در مورد بند 'د' نیز با توجه به شکایت پایی که معارض محترم از حکومتگران افغانستان دارند نظر ایشان را به این گونه نصایح و اندرزها که جامی به مثابه شلاق عبرت مکرر در مکرر بیاورده (به قول معارض محترم) جلب می نمایم:

### در دلالت رعایا

بحق شناسی و شکرگزاری سلاطین چه عادل و چه جائز

ای درین تنگ فضا گشته اسیر  
زیر تیغ و قلم شاه و وزیر


گه زتیغ ستمی همچو قلم  
 فرق سر شق شده رنج و الم  
 گه بزخم قلم همچون تیغ  
 غرق خون مانده افسوس و دروغ  
 جگری گیر به دندان دو سه روز  
 بنشین خرم و خندان دو سه روز  
 پرده تنگ دلی ساز مکن  
 داستان گله آغاز مکن  
 همچو شمع از اثر تیغ بخند  
 لوح سان نقش قلم را بیستند  
 نفع شه بیش بود از ضررش  
 خیر او نیز هم افزون زشرش  
 شکر نفعش چو نگفتی هرگز  
 چون گل از وی نشگفتی هرگز  
 این همه از ضرر او گله چیست  
 خیر بین شو زشر او گله چیست  
 تیغ او گر بسیان سد نشد  
 کید یاجوج فتن رد نشد  
 رمح او شاخ ساعات ثمر است  
 که ازو کام امل میوه خور است  
 قبر او گر نشد شحنه شهر  
 شهد در کام کسان گردد زهر  
 سوی تو ظلمی ازو گرده کرد  
 دست ظلم دگران کوتاه کرد  
 تخم روزیت که دهقان کارد  
 مکنت از بازوی سلطان دارد  
 تاجران رخت که از راه آرند  
 سوی شهر از مدد شاه آرند  
 پاسبان شبت از دزد ویست  
 حارس روز تو بی مزد ویست  
 قدر هریک که شمردم بشناس  
 پیشه کن قاعده شکرو و سیاس

از برای تو یکی کار گذار  
 که پی مزد کند اینهمه کار  
 گردو صد گنج و گبر افشاری  
 مزد یکروزه ادا نتوانی  
 نیست هر نقد که گیرد زتسو شاه  
 مزد یک کارگر کار آگاه  
 اینهمه ناله و فریاد که چه  
 اینهمه طعنه و بیداد که چه  
 گرچه پیش تو بود ظلم نهای  
 شاید آن عدل بود پیش خدای  
 ای بسا عدل که دارای جهان  
 کرده در صورت ظلم است نهان

البته معارض محترم می توانند بفرمایند که جامی در این شعرها فقط  
 دعوت به تسليم و سکوت در مقابل حکومت های ستمکار سلطنتی کرده  
 است و نه دیگر حکومت های ظالم !

در خاتمه آیا بتر نبود که معارض محترم به جای این همه شیون و  
 غوغای اعطای القابی همچون "این نو خاستگان" و "این مفتریان" به  
 نویسنده آن مقاله و عوض متهم ساختن وی به "اطالله لسان و سوء  
 ادب" و "افترا" و "طعن و تشنبیع" به جای همه این هایک بار به  
 دقیق بحث مربوط به جامی را در آن مقاله می خواندید و بعد در صدد  
 ایراد و اعتراض برمی آمدند؟ نمی دانم، شاید ایشان هیچ موضوع دیگری  
 برای قلمفرسانی و هیچ راهی برای تحصیل نام نیافته اند جز در افتادن با  
 آدم گمنام و بینامی مثل ناچیز و علم کردن "لا اله" و ندیده گرفتن "الا  
 الله" در آن مقاله و صدور حکم تکفیر، شاید هم ایشان می خواهند وسط  
 دعوای به نفع خود نرخ تعیین کنند و با متهم کردن نویسنده مقاله به  
 "حمله به جامی" و وانمود کردن خویش به عنوان مدافع آن بزرگوار،  
 مالکیت انحصاری خود و قوم خود را به "عارف جام" به ثبت برسانند؟  
 چنانکه از لقب "همشهری ما" که به وی داده اند همین امر مفهوم می  
 شود ولی مگر ایشان نمی دانند که جامی در مقدمه اولین دیوان متداول  
 خود بالصراحه می نویسد که مولد وی ولایت جام (از ولایات شرقی  
 ایران) است . و تخلص خود را نیز از نام همان منطقه گرفته؟ و مگر نمی  
 دانند که به نوشته تکمله حواشی نفحات (از لاری شاگرد جامی) و به  
 تصویر تذکره های معتبر (همچون عرفات العاشقین و میخانه و ریاض

الشعراء) نیا کان جامی از محله دشت اصفهان بوده اند و ۰۰۰؟ در این صورت چگونه می توان سهم ایران را از میراث فرهنگی وی ندیده گرفت و او را به افغانستان اختصاص داد ؟ بعلاوه در آن روزگار ایران و افغانستان وضعیت امروز را نداشته و دو واحد مجزاً نبوده اند که کسی را صرفاً بتوان افغانی و همشهری شما شمرد و نه ایرانی و همشهری ما، و جامی حتی اگر به اصالة خراسانی و اصفهانی نبود باز تنها همشهری شما نبود که خود را به عنوان مالک و مدافع و میراث خوار حقیقی او مطرح کنید. (و اشتباه نشود که این سخنان به معنای هیچ گونه ادعای ارضی نسبت به خاک افغانستان نیست) و پس از همه اینها، مانه تنها مولانا جامی بلکه شیخ سعدی و خواجه حافظ و تمامی بزرگان دیگر را هم دو دستی تقدیم شما می کنیم به شرط آن که به جای جنگ و دعوا بوسی مالکیت آنها به تکمیل میراث فرهنگی و معنوی آنان بپردازید و ما را هم به آسانه ادب به ساحت مقدس آنان متهم نفرمائید. والسلام.



### فارسی زبان اور متعرّبین

جناب وارث سریتدی کا مضمون "فارسی زبان اور متعرّبین" نظر سے گذرا۔ مرعوب کن عنوان کے باوجود دلچسپ اور مفید ہے اور اسے ایک اچھی کوشش کہا جاسکتا ہے۔ بر چند کہ اس میں کوئی نئی بات بیان نہیں کی گئی ہے لیکن مبادیاتِ موضوع کو ایک اچھی ترتیب سے اس طرح بیان کر دیا کہ مفایض و واضح ہو جائیں قابل ستانش ہے۔

ط اور ت اور پ اور ف کے صوتی تبدلی کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ بھی ایک عام بات ہے فارسی زبان سے دلچسپی رکھنے والوں کو عام طور پر معلوم ہی ہوتی ہے اور جہاں تک مغرب املک کا تعلق ہے فارسی زبان کی املکا میں اس قسم کی اصلاح کی گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا خالص فارسی زبان لکھنے اور عربی الفاظ کے اخراج کی اتنی بڑی مہم چلی ہو اور اس میں اس معمولی بات کا خیال نہ رکھا گیا ہو چنانچہ اسی پر عمل ہوا۔

جہاں تک مسائل کا تعلق ہے تو وہ پر زبان میں رہتے ہیں اور ان کے حل کی کوششیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس قسم کی اصلاحات جن کی تجویز پیش کی گئی ہے زبان میں رواج پا جائیں تو

بڑی بات ہے زبان کا اس قسم کی تبدیلیوں یا اصلاحات کو قبول کر لینا  
شرط اول ہے زبان ضرورت اور سبولت کے فطری اصول کے تحت  
تبدیلیوں کو رد یا قبول کرتی ہے اور اس سلسلے میں زبردستی اور جو  
کو بالکل برداشت نہیں کرتی - زبان میں یہ قاعدگی کا گذر نہیں ہو  
بات کسی نہ کسی قاعدے کے تحت ہوتی ہے - زیر نظر مضمون میں  
جن یہ قاعدگیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا جواز رواجِ عام قاعدے میں  
مضمر ہے پھر بھی اصولاً جو بات سریندی صاحب نے کہی ہے درست ہے -  
”صد“ اور ”سد“ کا معاملہ اس لیے عجیب نظر آتا ہے کہ یہ  
دونوں الفاظ پہلے ہی فارسی لغت میں ہم معنی بیس اور ”فرهنگ  
عمید“ میں دیکھئے جاسکتے ہیں - اس لغت کا ذکر صاحب مضمون نے  
کیا ہے لیکن کسوٹی رواج اور چلن ہے جو ”سد“ کو حاصل نہیں اور  
”صد“ کو ہے - سد لغت میں اس طرح مردہ بڑا ہے کہ عام طور پر کسی  
کو اسکے وجود کا علم بھی نہیں ہے - دوسرا لفظ ”سد“ ہے اس میں  
اگرچہ دال مشدد ہے لیکن عام تحریر اور طباعت کتب میں اکثر تشدید  
کو ضروری نہیں سمجھا جاتا اسی صورت میں اگر سد بمعنی صد کو  
رواج دیا جائے تو عام پڑھنے والوں کو جو زبان اور لغت سے خصوصی  
دلچسپی نہیں رکھتے دشواری ہو گی اور ان کے الجھن میں پڑھانے کا  
قوی امکان ہے - وہ سد (بمعنی صد) اور سد سکندری والی سدمیں فرق  
نہ کرسکیں گے بر چند زبان سب کے لیے ایک ہے لیکن عالم و عامی  
کی زبان میں فرق ہونا لازم ہے پھر بھی زبان کو عام آدمی کے لیے  
دشوار بنانے کی کوشش کوئی اچھا اقدام نہیں ہے - جن لوگوں کو  
متعریبیں کہا گیا ہے وہ لوگ علماء تھے اور یہی چنانچہ انکی زبان کا  
عربی زدہ ہونا ضروری ہے بلکہ یہ انکی مجبوری ہے، اسے عام زبان  
کی طرح رواج حاصل نہیں رہا ہے یہ ایک پڑھی لکھی اقلیت کی زبان  
کی خصوصیت ہے یا پھر غیر اہل زبان کی، اس لیے کہ ہر نیا طالب علم  
جو زبان سیکھتا ہے یا وہ لوگ جو اہل زبان نہیں ہوتے ان کا رجحان  
مشکل لغات کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی مغرب الفاظ  
زیادہ بولتے اور لکھتے ہیں -

عرض کیا گیا تھا کہ زبان میں رواج کو بڑی اہمیت حاصل ہے، مرزا  
غالب نے خورشید کو ہمیشہ خرشید لکھا اور اسی کو صحیح جانتے تھے  
مگر اس لفظ کی یہ املا رواج نہ پاسکی - غالب کی مخالفت کے  
باوجود اس لفظ کی املا عام طور پر ”خورشید“ بی ہے اور اسی کو  
درست سمجھنا چاہیے -

ذال معجمہ کا مسئلہ اب بعد از وقت (Time barred) ہے مگر برانا اور دلچسپ مسئلہ ہے اسکے رواج کو اہل "فارس" نے زبان کے قواعد کے مطابق زمانہ قدیم سے قبول اور اختیار کیا ہے اور اگر چل کر بقول وارث سربندی صاحب اس سلسلے میں بھی اصلاح ہو گئی اور آذر کو آزر لکھا جانے لگا ہے۔ ذال معجمہ کی حقیقت پر زور ذالتے ہوئے اے ٹی او مسٹڈ اپنی کتاب "ایران قدیم" (ترجمہ سید عابد علی عابد) میں لکھتے ہیں کہ لفظ آزادان (ازادان) میں اولاً ذال معجمہ بی تھا بلکہ اسکی ایک صورت "آزادتان" بھی رائج تھی جس میں ت اور ذال کا بدل ہے یہ بات انہوں ایرانی آبادی کے بعض طبقات کا ذکر کرتے ہوئے بتائی ہے۔ مصنف کی اس تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذال معجمہ کی آواز زبان ایرانی کی صوتیات میں عربوں کے تسلط سے قبل شامل تھی اس کا تعلق عربی زبان کی صوتیات سے وسا نہیں ہے جیسا کہ ص ۳ اور ص ۴ وغیرہ کی آوازوں کا ہے یہ آواز مشترک اوازوں میں سے تھی لیکن عربوں کے تسلط کے بعد جب عربی زبان ایران میں رائج ہوئی (علمی زبان بی کی حیثیت سے سبی) اور قدیم ایرانی الفاظ متروک ہو گئے تو ایک زمانہ ایسا آگیا کہ ذال معجمہ کو ایران میں عربی آواز کا قائم مقام سمجھا جانے لگا اور لوگ اس کی لسانی اہمیت اور حقیقت سے واقف نہ رہے اس لیے تاریخ لسانیات سے دلچسپی عام نہیں ہوئی۔ پھر بھی متخصصین پر دور میں ہوتے ہیں۔ محقق طوسی جن کے زمانے تک ذال معجمہ کا استعمال فارسی میں ہوتا تھا (ذال کے بدل کے طور پر) اس کے مخصوص استعمال سے واقف تھے چنانچہ زبان فارسی کے دستور کے مطابق ذال معجمہ کے استعمال کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور رباعی کہی ہے:

آنان که بیارسی سخن می رانند در معرض ذال ذال را نشانند  
ما قبل وی ار ساکن جزوی بود ذال است و گرنہ ذال معجم دانند  
اور بقول سید عابد علی عابد (مترجم ایران قدیم - اے ٹی او مسٹڈ)  
فارسی کے برائے مخطوطات میں اس بات کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔  
مؤلف "فرهنگ عمید" نے بھی اپنی فرهنگ کے دیباچے میں  
مختلف حروف کے بیان میں ذال اور ذال معجمہ کے متعلق لکھا ہے۔  
"حروف ذال سابق در بخش کلمات ذال تلفظ می شدہ و متقدمین  
برای تلفظ ذال و ذال قاعده ای قابل بودہ اند چنانکہ شاعری  
گفتہ است ۰۰۰" اور اس کے بعد محقق طوسی کی وہی رباعی درج کی ہے جو اور

نقل کی جاچکی ہے۔ اس کے بعد اس مقدمے میں عمید لکھتے ہیں:

”اگر ما قبل ساکن و حرف علت (و۔ ۱۔ ۱) باشد دال و الا ذال تلفظ می شدہ باین قاعدہ کلمات گند، نمود و گشود و امثال آن با ذال تلفظ می کردند و گند و نمود و گشود می گفتند۔ اما امروز این قاعدہ رعایت نمی شود۔“

اس اقتباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک فارسی زبان میں ذال کا تلفظ برقرار رہا تو وہ قاعدہ بھی جو محقق طوسی نے رباعی میں بیان کیا ہے دستور زبان فارسی اور فارسی زبان کی صوتیات کا حصہ رہا جب دال اور ذال کے تلفظ کا فرق باقی نہ رہا اور صرف دال کی آواز باقی رہ گئی تو یہ قاعدہ بھی متروک ہو گیا یعنی اصل اور اہم بات کسی قاعدے کا رواج اور چلن ہے آج جو الفاظ جس طرح لکھے جا رہے ہیں اگر کوئی خاص وجہ پیدا نہ ہو گئی تو وہ کل بھی اسی طرح لکھے جائیں گے لیکن جب کوئی لفظ چلن برقرار نہیں رکھ سکتا اور اس کا رواج باقی نہیں رہتا تو وہ قاعدے بھی بیکار ہو جاتے ہیں جو اس سے متعلق ہوتے ہیں یعنی پہلے قواعد زبان کی پیروی کرتے ہیں اور بھر زبان کو انہی قواعد پر کسا اور پر کھا جاتا ہے لیکن قواعد اور زبان کی جنگ میں بعیشه فتح زبان بھی کی ہوتی ہے ورنہ زبان مردہ سمجھی ہے جائے گی۔

جیسا کہ سربندی صاحب نے لکھا ہے عام طور پر جن الفاظ میں عربی حروف ہوں ان کی املا میں عربی حروف برقرار رہنا چاہئیں۔ لیکن فارسی الفاظ میں جہاں عربی حروف اصلاً موجود نہیں ہیں وہاں فارسی حروف کی ٹھونس ٹھانس نہیں ہونی چاہیے لیکن اردو میں اس کے خلاف بھی ہوا ہے۔ پہلے ’طیار‘ لکھتے تھے اور اب ’تیار‘ لکھتے ہیں لیکن اسے پھر ’طیار‘ لکھنے کی تجویز پر اصرار ایک فضول اور ناقابل عمل تجویز ہے اس لیے کہ رواج کے خلاف کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہوتا اسے مستثنیات میں شمار کرنا ہو گا جو دستور و قواعد میں داخل سمجھئے جائے ہیں۔ اس لیے ناچیز سربندی صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے بھی ان کے بتائے ہوئے قواعد پر انکہ بند کر کے عمل کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ زبان اپنی ضرورت اور مزاج کے مطابق تبدیلیوں کو رد یا قبول کرتی ہے۔ فارسی زبان کو عربی الفاظ سے باک کرنے کی تحریک ہور داود اور ان کے معاصرین نے چلانی نہیں مگر وہ ناکام ہونی بلکہ اس زبردست زیادتی کا رد عمل زبان میں اس طرح ہوا کہ اب عربی الفاظ کا تناسب پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے بلکہ

اب عربی الفاظ پہلے سے زیادہ عربی لغت کے معنوں میں استعمال ہونے لگے ہیں یہاں تک کہ اب 'بر علیہ شما' جیسے ہے قاعدہ اور مہمل جملے کو بھی کوئی فارسی زبان سے خارج نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ تحریر و تقریر میں اب بھی بولا جاتا ہے حالانکہ دکتر خانلری جیسے فاضل اساتذہ نے "مجلہ سخن" میں اس کے خلاف لکھا اور اس کی مہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ فاضل اسٹاد نے اس قبیح جملے کے متعلق لکھا ہے:

"بر علیہ" چیست؟ علیہ براو۔ بر علیہ براو۔ این ترکیب زشت را بی سواد ہای اخیر در آورده اند و گرنہ در تہام ادبیات فارسی ترکیبی باین بد ترکیبی نیست۔ بجای ان "برضد" و "بخلاف" و امثال آن گفته اند . . . ."

"در فارسی بر علیہ کسی باچیزی نیاز نہیں کنند و نہ بضد آن بلکہ باچیزی باکسی می جنگند و پیکاری می کنند و مضاف می دھند و ستیزہ می کنند".

لیکن ایسے استادوں کی سعی بھی ہے نتیجہ ثابت ہوئی اور یہ قبیح جملہ اب بھی بول چال میں شامل ہے بلکہ تحریر میں بھی دیکھنے میں آتا ہے۔

قاعدہ کلیہ عام طور بر زبان میں رائج ہوتا ہے لیکن خاص مسائل میں زبان اپنی فطرت مزاج اور ضرورت کے مطابق جس چیز کو سہولت سے اپنا سکتی ہے قبول کر لیتی ہے اور نئے کلیے مرتب کرتی ہے بالآخر قواعد کو زندہ زبان کے تحت بھی رینا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ "بر علیہ" قسم کے جملے زبان کو خراب نہیں کرتے بلکہ یہ ایک انتہائی مثال ہے جہاں زبان مابرین کی رائج کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ مصلحین اگر زبان کے امکانات سے ناواقف ہوں اور زبان پر ضرورت سے زیادہ بوجہ ڈالنا چاہیں تو وہ اصلاح کی تمنا اور کوشش ہی کرسکتی ہیں مگر اپنی کوشش اور تمنا کو زبان پر مسلط نہیں کرسکتے۔ بر مصلح زبان کو یہ حقیقت ذہن میں رکھ کر اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔

زبان کو قواعد کا اسیر بنانا قواعد اور زبان کی شادابی اور ارتقاء کے خلاف ہی جاتا ہے اس قسم کے رجحانات بڑھتے بڑھتے زبان کی فطری ترقی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور بڑھ جائیں تو رفتہ رفتہ اسے زندگی کی حرارت سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ سنسکرت، یونانی اور کئی قدیم زبانوں کا حشر بھارت سامنے ہے اس لیے مناسب ہے کہ زبان

کو اس کی فطرت اور قانون ارتقاء کر تحت بڑی حد تک آزاد چھوڑ دیا جائے - زبان سے دوستی کا بھی تقاضا ہے - قواعد پرستی کا رجحان زبان کے لیے ضروری ہے - کہ ہم قواعد پرستی اور قواعد شناسی میں تمیز کریں اور "ذال معجمہ" جیسے مسائل کو ازسر نوزنہ کرنے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ وہ اپنی موت مرچکر بیس -

### الیاس عشقی لطیف آباد - حیدرآباد (سنده) -



محترم وارث سریندی کے مقالے اور اس کے مشتملات میں بھاری بایسی مواصلت کے اقتباسات اور دو طرفہ مبحث بی دو آشہ کر کے ترتیب دیئے گئے ہیں - لیکن اس میں دلائل و شواہد سے گفتگو کرنے کی بجائے ادعائے محض اور طعن و تشنج کارنگ غالب ہے - وارث صاحب کا مسئلہ دراصل ایران کے فارسی گویان کی عربی مخارج میں مشکلات کا نہیں ہے بلکہ پنجابی لہجے میں تلفظ کی مشکلات کا ہے - ان کا مولد "سریند" مشرقی پنجاب میں گورمکھی بولنے والے سکھوں میں گھرا ہوا ہے - موجودہ مسکن "کنجرود" بھی مشرقی سرحد پنجاب پر واقع ہے - وسطی پنجاب کی بولی جسے ماہرین نے "مشرقی پنجابی" کا نام دیا ہے اس میں تقابل زبان کا غلبہ ہے اور عوام کے لئے عربی مخارج اور فارسی تلفظ تو در کنار اردو کو صحیح طور سے بولنا بھی محال ہے - اس ماحول میں نشوونہا بانی والی ذہن نے مرتا غالب کے لسانی نظریات میں اپنے مخصوص علاقائی مسئلے کا یہ حل تلاش کر لیا ہے کہ مشکل مخارج کو زبان سے خارج بھی کر دیا جائے -

راولپنڈی / بوٹھویار کی بولیار لہندا (Lehnda) گروپ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن مشرقی پنجابی پر گورمکھی اور بھاشا و هندی کے اثرات ہیں - اس جگہ کے باشندے بالعلوم ا، ع - ف بھے - ث س ص - جھے چھے - ح - خ کھے - چھے ش - ذ ز ض ظ ج - ط ت - غ گ - ک ق - وغیرہ میں فرق و امتیاز نہیں کرتے - گورمکھی اور سنسکرت کی دیوناگری لہیوں میں بھی ان ہم آهنگ مخارج کے لیے عالم قریباً مفقود ہیں - سنسکرت اور فارسی کو "بند بوربی" آریہ لسانی گروپ کی

بہ جماعت زبانیں سمجھے کر فارسی لِبجہ و الحان کو پندی بھاشاؤں پر  
قیاس کر لینا درست نہیں ہے۔ اس پر اصل قیاس سے اکثر هندی لغت  
نویسون اور شاعروں نے لسانی مسائل میں ٹھوکر کھائی ہے۔ اس گروہ  
نے فارسی لِبجہ و الحان کا جائزہ بھی پند کرے فارسی پڑھنے لوگوں کے  
لئے سر لئے کہ اس دقیق موضوع پر خامہ فرانسی کی ہے اور غلط نتائج  
خذ کر کے ان کی تشریف کی ہے۔ بچھلے دنوں ہمارے ایک ہم وطن  
اسکالر نے روزنامہ جنگ کرے کالمون میں اپنے دورہ ایران کا ذکر کرتے  
ہوئے اسی الجھن کو بیان کیا ہے۔ موصوف نے لکھا کہ جو تعلیم وطن  
میں حاصل کی تھی وہ ایرانی فارسی کے اگر ناکام ہو گئی اور وہاں  
گفتگو کے لیے ترجمان کی ضرورت لاحق ہوئی۔ دراصل ایران کے  
باشندوں کا تکلم بر صغير کے مقابلے میں بہت ارفع اور ان کے تلفظ و  
ادائیگی میں صحت مخارج کا معیار عربوں سے کم نہیں ہے۔ ایران کا  
تو لسان و ادب میں ایک بین الاقوامی مقام ہے جس میں کلام کی  
گنجائش نہیں ہے۔ مشرقی جانب افغانستان میں کابل اور اس کے  
نواحات میں سردار خیل، بعض بزارہ جات اور دوسرے شیخ محمدی  
فارسی دان وغیرہم کی زبان بھی ہم لوگوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ انہیں  
نام نہاد عربی مصوتے کسی مشکل میں مبتلا نہیں کر تھے۔ اسی طرح  
پاک و ہند میں هندی و گورمکھی والی ہندو سکھ گھر انوں کے مقابلے  
میں عربی فارسی سے مانوس مسلم گھر انوں کی زبان، لِبجہ اور ذخیرہ  
الفاظ میں نہایاں فرق موجود ہے۔

میان محمد سعید۔ کراچی



اتفاق دیکھئے کہ "ذال" کے متعلق میان محمد سعید صاحب کا  
مضمون "اخبار اردو" میں اور وارت سریندی صاحب کا "دانش"  
میں ایک ساتھ ہی شائع ہوا۔ میرا رجحان میان صاحب کی تائید میں  
ہے۔ مانا کہ ذال فارسی میں نہیں ہے مگر صدیوں سے رائج ہے جیسا  
کہ انہوں نے دستاویزی شہادتیں پیش کی ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے  
کہ "ط" سے طوطا لکھا جاتا رہے اور اب بھی لوگ لکھتے ہیں لہذا  
طوطا اور توتا جس طرح صحیح ہے گذارش اور گزارش بھی (صحیح  
ہے)۔

خسروی۔ کراچی



پاکستان میں فارسی ادب - جلد چہارم  
 (جواب تبصرہ)

دانش کر شمارہ ۲ میں محترم ڈاکٹر ظہور الدین احمد کی تصویف "پاکستان میں فارسی ادب" جلد چہارم پر ہم نے تبصرہ شائع کیا تھا اس میں مذکور بعض آراء سے فاضل مصنف نے اختلاف کیا ہے اور اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے۔ یہ وضاحت بلا تحریف شائع کی جا رہی ہے البتہ جواب تبصرہ کو دانش کر تبصرے سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی تحریر کی ترتیب کو بدل دیا گیا ہے۔ جواب تبصرہ کے جن مندرجات سے مدیر دانش کو اختلاف ہے اس کا ذکر حاشیے میں کر دیا گیا ہے۔

\* \* \*

مجلہ دانش شمارہ ۳ میں "پاکستان میں فارسی ادب - جلد چہارم" پر آپ کا تبصرہ نظر سے گذرنا۔ میری تعریف، غلطیوں کی اصلاح، کتابت و طباعت کی غلطیوں کی نشاندہی پر شکریہ۔ میں چانتا ہوں کہ تبصرہ کے پس منظر کے طور (ہم) مزید توضیح و توجیہ کے لیے یہ چند سطیریں شائع ہو جائیں تاکہ جو لوگ میری کتاب دیکھئے بغیر آپ کا تبصرہ پڑھیں انہیں آپ کی فراہم کردہ اطلاعات اور اصلاحات کا پس منظر بھی معلوم ہو جائے۔

کتاب کی تعریر، تأییف اور طباعت میں تین چار سال صرف ہوئے بیس۔ ۱۹۸۳ء کے بعد جو نئے مأخذ اور نئی کتب تحقیقی شائع ہوئی ہیں ان سے استفادہ ممکن نہیں تھا۔ تبصرہ میں قومی عجائب گھر کے مخطوطات کی فہرست کے حوالے دیئے گئے ہیں وہ یقیناً میرے احاطہ معلومات سے ماوراء تھے۔ کتاب کی تدوین تک "شریف التواریخ" کی بہلی دو جلدیں شائع ہوئی تھیں۔ سلسلہ نوشابیہ سے منسلک مصنفین کے لیے میری اطلاعات کا مأخذ "شریف التواریخ" تھی جو حضرت شرافت نوشابی کے پاس خطی صورت میں موجود تھی اور انہوں نے بی کمال شفقت سے استفادہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ کامل "شریف التواریخ" اواخر ۱۹۸۳ء میں شائع ہوئی اس لیے اس

سے استفادہ نہ ہو سکا۔ (۱) تبصرہ میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ اکثر اسی جامع تاریخ پر مبنی ہیں۔  
تبصرے میں جن غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے متعلق مزید توضیحات یہ ہیں:

### دانش - ص ۲۱۹ - مرآۃ الغفوریہ

- ۱- فہرست میں صفحہ ۱۲ پر سہواً نوراللہ کے سامنے "مرآۃ الغفوریہ" لکھا گیا ہے ورنہ صفحہ ۱۵ پر امام بخش نوشہی لکھا ہے اور کتاب کے تعارف میں صفحہ ۲۲ پر امام بخش کو بی کتاب کا مصنف بتایا گیا ہے۔ تبصرہ میں ان دو مقامات کا ذکر نہیں کیا گیا۔
- ۲- میں نے جناب شرافت صاحب مرحوم کے پاس "مرآۃ الغفوریہ" کی فوٹو کامی سے ہی عنوانات نقل کیے تھے میرے خیال میں عشق و تصورات کے بجاۓ عشق و تصوف اور معونت و استدرج کے بجاۓ مؤونت و استدرج ہی مناسب ہیں۔

معونت کے معنی مدد - اعانت - اور

مؤونت کے معنی پروا نکردن، خبر نداشتن از ادعایا آمادہ نشدن برائی آن گرفتن ساز و برگ او را و تادریں تاکشیدن تعب جستجوی وی را۔ (منتسبی الارب)۔

استدرج کے معنی نعمت دادن اور تعالیٰ بنده را بعد از صدخطا ازوی و فراموش کنائیدن او را استغفار و گرفت کردن او را اندک اندک و هلاک نساختن ناگاہ بیک بار۔ (منتسبی الارب)۔  
تصوف و سلوک میں احوال و مراحل طری کرنے کے سلسلے میں یہی دو لفظ زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ (۳)

۱- ڈاکٹر صاحب خود بتاریہ ہیں کہ انہیں "شریف التواریخ" کی اشاعت سے قبل اس کے دستوں نسخہ سے ہی استفادہ کرنے کی سبولت فراہم کردی گئی تھی اسی لئے ممکن ہو سکا کہ وہ انہی زیر تبصرہ کتاب میں احمدیا، فقیر عزیز الدین، محمد اشرف منجری اور فقیر غلام محی الدین لاہوری کے حالات کے ضمن میں "شریف التواریخ" کی نیسری جلد کے مختلف حصوں کو استعمال کریں جو اس وقت خطی صورت میں تھے اور بہت بعد میں شائع ہوئے۔ لہذا میرے خیال میں بد کہیں کسی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کامل "شریف التواریخ" اواخر ۱۹۸۲ء میں شائع ہوئی اس لئے اس سے استفادہ نہ ہو سکا۔

۲- صفحہ ۵ سے مراد صفحہ "د" ہے۔

۳- تقریب مفہوم کے اختبار سے "استدرج" کے ساتھ "معونت" بی آنا چاہیے۔ ڈاکٹر سید جعفر سجادی نے نہانوی کی کتاب "کشاف اصطلاحات الفتن و العلوم" جلد ۱ ص ۸۷ کے حوالے سے انہی کتاب "روہنگ معارف اسلامی" جلد ۲ ص ۳۲۳ میں لفظ "خارج عادات" کی تعریج یوں کی ہے:

دانش - ص ۲۱۹ - احمد یار شہزادہ نے ملک نے قصہ کامروپ سے مندرجہ ذیل شعر نقل کر کے ثابت کیا ہے کہ احمد یار اسلام گڑھ میں پیدا ہوا۔

قلعہ اسلام گڑھ پر جسیں اوئھے سُرت سنبھالی  
وہی شہر جلال پوریدا خلق ۲ ربی سوکھالی  
بوا بُدھ سنگھ نے پہلے مصراع کو اس طرح لکھا ہے:  
قلعہ اسلام گڑھ پر جا کے اوئھے سُرت سنبھالی  
اگر قصہ کامروپ سے متعلقہ کلمہ "جمیں یا جمی" قبول کریں  
تب بھی شک کی گنجایش رہتی ہے۔ احمد یار عموماً اپنے متعلق واحد شخص مفرد میں بات کرتا ہے۔ مثلاً اسی قصے میں وہ تین شعر پہلے اپنے آپ کو احمد یارا اور ایک شعر پہلے "کی بان میں مشبوری جوگا" کہتا ہے۔ طب احمد یار میں وہ اپنے وطن سے متعلق یون کہتا ہے:

قلعہ اسلام گڑھ دا ناؤ  
اویسی میں عاصی دا تھاؤ  
تھاؤ سے مراد وطن، قیامگاہ زیادہ واضح ہے۔ مولد کے معنی یقینی نہیں۔ جمیں / جمی سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی شخص احتراماً کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام گڑھ میں پیدا ہوئے یا ہم یہ سمجھئیں کہ احمد یار ایک دم شخص واحد مفرد سے جمع متکلم میں چلے گئے ہیں۔ اگر خلاف معمول یہ سمجھئیں تو بھر اس کی جانب ولادت اسلام گڑھ قرار پاتی ہے۔

دانش - ص ۲۲۰ - فقیر عزیز الدین  
۱- فقیر عزیز الدین نے مندرجہ ذیل اشعار میں اپنے آپ کو اپنے والد کا جانشین کہا ہے۔ اس لیے یہ شبادت زیادہ معتبر ہے:  
خلف صدق تو شاہ عزیز الدین  
شد بجھائی تو ثانی ای نوشاد

"... امور خارق عادت یا از مسلم صادر می شود یا از کافر۔ در قسم اول یا مغرون بکمال عرفان بناشد آن را معونت گویند، یا مغرون بکمال عرفان است۔ در این صورت یا مغرون بادعا، نبوت است آن را معجزہ نامند۔ و آنچہ از دست کافر ظاہر شود و موافق ادعائی او باشد استدرج گویند۔" "مرأة الفخوريه" کی فوٹو کالیبی اس وقت میرے بیش نظر ہے اس کی ساتوں فصل کا مکمل عنوان مصنف نے اس طرح لکھا ہے: "معجزہ، خوارق عادت و معونت و استدرج"۔ ۳۔ خلق کی جگہ خلقت ہونا چاہیے۔

## دستگیری کند مریدان را - ۵

۲- فقیر عزیز الدین، فقیر امام الدین اور فقیر نور الدین کے سالہائے وفات میں نے وہی لکھرے بیس جو معاصر اور قریب العصر تذکروں میں درج تھے ۶ بقول جانب شرافت مرحوم انہوں نے فقیر خانہ میں موجود ایک خاص بیاض سے سالہائے وفات درج کرے ہیں۔ یہ امر مزید تحقیق طلب ہے۔

۳- سچیار، پیر محمد دو الگ شخصیتیں نہیں بلکہ ایک ہی شخص ہے۔ پیر محمد سچیار کے بجا نئے سچیار بہلے اور نام بعد میں لکھا گیا ہے۔

۴- فقیر عزیز الدین نے جو منظوم شجرہ طریقت خود لکھا ہے اسے بھی صحیح جانتا چاہیے۔ جانب شرافت مرحوم نے بھی فقیر عزیز الدین کے روزنامچہ سے ہی شجرہ طریقت نقل کیا ہے۔

دانش - ص ۲۲۱ - ہاشم شاہ

عبدالله ہاشمی نے "ہاشم شاہ دے ککارے" کے عنوان سے ان کا کلام مرتب کیا ہے انہوں نے ۲۲ مأخذ سے ۸۸ صفحات پر مشتمل دیباچہ لکھا ہے انہوں نے "لکھتاں" کے زیر عنوان فارسی تألیفات کا بھی ذکر کیا ہے (ص ۹) اور ان میں "فقر نامہ" کو فارسی تألیفات میں شمار کیا گیا ہے۔

۵- مذکورہ اشعار سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسرے شاعر نے فقیر عزیز الدین کی مدح میں کہیے ہیں۔ ورنہ ایک شخص کس طرح خود ستائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو "خلف صدق" اور "مریدوں کی دستگیری کرنے والا" کہے سکتا ہے۔

مفتش علی الدین نے عبور نامہ (جلد ۲ ص ۸۲ طبع لاہور) میں قطعی صراحةً کہ ساتھ لکھ دیا ہے کہ اگرچہ فقیر عزیز الدین سب سے بڑے تھے اور فقیر نور الدین تیسری جگہ پر تھے لیکن دونوں بڑے بھائیوں نے اپنے جھوٹی بھائی (نور الدین) کو اپنے والد کا سجادہ نشین مقرر کیا۔ اس لئے کہ ان کی اپنے والد سے سیرت بھی ملتی تھی اور صورت بھی۔

مفتش علی الدین، فقیر برادران کا معاصر بھی ہے اور یہ شہر بھی۔

۶- زیر تصریح کتاب میں کہیں فقیر نور الدین کا سال وفات لکھا نہیں ملتا۔ یہ امر تحقیق شدہ ہے کہ جب تک فقیر مقیث الدین زندہ تھے اور فقیر خانہ کے نوازدہ ان کی تحويل میں نہیں۔ یہ خاص بیاض ویاں موجود تھی۔

۷- شرافت مرحوم، نے یہ شجرہ طریقت فقیر عزیز الدین کا نمونہ کلام بیش کرنے کی لیے درج کیا ہے ورنہ اس میں جو تاریخی غلطیاں ہیں ان کی مرحوم شرافت نے حاشیے میں نشاندہی کر دی ہے۔ حضرت نوشه کا شاہ سلیمان بھلوالی سے بیعت ہونا مسلمات میں شامل ہے مگر عزیز الدین نے اپنے نظم کردہ شجرے میں یہ واسطہ حذف کر دیا ہے اور شاہ معروف خوشابی کا نام لکھا ہے ایسی صورت میں اس منظوم شجرہ طریقت کو کیسے صحیح جانا جائے؟

دانش - ص ۲۲۳ - چودھری شہباز

۱۔ مصنف نے خود بتایا ہے کہ وہ جلال آباد میں تھا اور ایک بزرگ پیر الدین نے اسے قصہ سسی پنون مکمل کرنے کی فرمائش کی تو ہم کیوں تاویل کریں اور سمجھیں کہ اس نے ضرورت شعری کے لیے جلال پور کو جلال آباد اور پیر بخش کو پیر الدین لکھا ہے۔ ممکن ہے جناب شرافت کا قیاس درست نہ ہو کیونکہ بصیرہ میں انہی کی کتاب "شریف التواریخ" کا حوالہ دیا گیا ہے۔

۲۔ میں نے سبب تأثیف بتانے کے لیے اشعار نقل نہیں کیے اور نہ بی اشعار کو متداول ترتیب کے مطابق نقل کیا ہے بلکہ نشر کی طرح عبارت لکھی ہے۔ پورے دو شعر نقل نہیں کیے بلکہ صرف وہ حصہ نقل کیا ہے جس سے سبب تأثیف عیار ہوتا ہے۔

۳۔ بصیرہ میں بتایا گیا ہے کہ چودھری شاہباز ایک مشنوی "عجیب منظر" کے مصنف ہیں اور میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ چودھری شاہباز ملبی کی کوئی مشنوی اس نام سے موجود نہیں۔ مجموعہ شیرانی میں جو کتاب موجود ہے اس کا نام "قصہ شاہباز خان یا قصہ عجیب منظر" ہے اس کا مصنف شاہباز ملبی نہیں۔ اس مشنوی میں شاہباز خان اپنے متعلق مندرجہ ذیل کوائف بتاتا ہے جو شاہباز ملبی کے احوال و کوائف سے مختلف ہیں:

گرفتم بی به نخچیر و سواری  
تفنگ اندازی و ہم یغداری  
کمانداری گبی، گہ نیزہ بازی  
شکار افگن شدم در ترکتازی  
گبی می کردمی چون عشوہ و ناز  
شکار از جوہ و شاہین و شہباز  
گبی افگندمی اندر سواری  
سگان را در ہی صید شکاری

۴۔ واقعی پنون نسخہ خطی مجموعہ شیرانی شمارہ ۱۲۳۵ ورق ۷ بر دوسرا شعر اسی طرح درج ہے جیسا کہ کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔

دانش - ص ۲۲۵ - غلام محی الدین نوشہ ثانی

سوہن لال مؤلف "عمدة التواریخ" بچیس سال تک ان کی خدمت میں رہا اور فیضیاب ہوتا رہا وہ تو ان کی وفات کا عینی شاہد ہو گا۔ اس نے سال وفات ۱۲۳۰ھ لکھا ہے۔ (انتخاب دفتر دویم از عمدة التواریخ، لاہور، ص ۱۳)۔

### دانش - ص ۲۲۷ - عبدالرحمن خلدي

ڈاکٹر محمد باقر نے ۱۹۳۳ء میں خلدي کی فارسی تصنیف کا مکمل سیٹ منظور حسن \* کرے پاس دیکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں خلدي کی تصنیف خلدي نامہ سے میں نے استفادہ کیا۔ کتاب خود مصنف کرے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ محمود نامہ بھی اس میں شامل تھا اور محمود نامے کی ہر غزل کرے جواب میں کتاب میں ایک ایک فارسی غزل خلدي کی کبھی ہوئی درج تھی۔ (اور نیشنل کالج میگزین، نومبر ۱۹۶۷ء) ڈاکٹر صاحب کرے اس بیان سے میں نے یہ سمجھا کہ خلدي نے جواب کا نام بھی "محمود نامہ" رکھا ہے کیونکہ دوسرے شعراء نے جو جوابات لکھے ہیں ان میں سے بعضوں نے بھی ان کے نام کو "محمود نامہ" سے باد کیا ہے۔ مثلاً دلشاہ پسروری نے محمود نامہ کی پیروی میں جو رسالہ لکھا اس کا نام "محمود نامہ" رکھا ہے:

اعجاز عیسوی برساند ایاز را

محمود نامہ ساخته ام این رسالہ را

(مثنویات محمود مرتبہ محمد بشیر حسین، لاہور، ص ۵۵)۔

### دانش ، ص ۲۲۹ - داود بن عباسی

میں نے اس مصنف کی کتاب "صيد المراد في قوانين الصياد" کا تعارف کرایا ہے چونکہ یہ کتاب مطبوعہ شکل میں دستیاب تھی اس لیے اس کے مشمولات کی کیفیت بتانا آسان تھا۔ یہی میرا مقصد تھا۔ یہ بھی یقینی تھا کہ یہ کتاب طغان تیمور کے عبد حکومت (۷۴۷-۷۵۳ھ) میں نہیں لکھی گئی ہے۔ حیرت ہے کہ فلت نے اسے کیسے اس عبد سے منسوب کر دیا جب کہ وہ اس کی زبان کے بارے میں لکھتا ہے:

The language is corrupt, being bad Indian Persian racked with a little Panjabī & Sindi

کتاب میں اس قسم کا کہیں ذکر نہیں تھا کہ یہ کتاب طغان تیمور کے زمانے میں لکھی گئی اس لیے میں نے اس کے بیان کی طرف اعتنا نہیں کیا۔

### دانش - ص ۲۲۷ - مزید مواد

آپ نے "مزید مواد" کے زیر عنوان جن مصنفین کا ذکر کیا ہے ان میں سے مندرجہ ذیل انگریزی عبد سے متعلق ہیں۔ سکھوں کا عبد

۱۲۶۵ تک ہے جیسا کہ آپ نے ان مصنفین کے ساتھ سالہائے وفات  
بھی درج کیے ہیں ان سے بھی ظاہر ہے کہ یہ بعد کے زمانے سے متعلق  
ہیں اس لیے انشاء اللہ جلد پنجم میں ان کا ذکر آئے گا -  
احمد بخش یکدل (م ۱۲۸۳ھ)، احمد کشمیری (م ۱۲۷۸ھ)، اوحدی  
(م ۱۲۸۸ھ)، محمد بن غلام محمد وغیرہ -

میں نے دیباچے میں ذکر کر دیا تھا جو کتابیں میری دسترس میں  
نبیس آسکیں ان کا تعارف نامہ لکھنا ممکن نہیں ہو سکا۔ آپ نے جن  
نو دریافت شدہ کتابوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے متعلق بھی عرض  
ہے کہ اگر وہ کتابیں دستیاب ہو سکیں تو ان کے متعلق بھی کچھ نہ  
کچھ لکھ کر آئندہ جلد میں اضافات کے تحت شامل کر لیا جائے گا -  
پچھلی چار جلدوں میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا -

ڈاکٹر ظہور الدین احمد، لاہور۔



THE IQBAL ACADEMY PAKISTAN'S  
QUARTERLY

# Iqbal Review

Frontier Thinking  
in

- |                 |              |               |             |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| • IQBAL STUDIES | • PHILOSOPHY | • METAPHYSICS | • TRADITION |
| • LITERATURE    | • SOCIOLOGY  | • HISTORY     | • ISLAMIAT  |
| • ARTS          | • MYSTICISM  |               |             |

LOCAL

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. SINGLE COPY              | - Rs. 20/- |
| 2. SINGLE COPY FOR STUDENTS | - Rs. 15/- |
| 3. ANNUAL SUBSCRIPTION      | - Rs. 60/- |

FOREIGN

- |  |          |
|--|----------|
| 1. ANNUAL SUBSCRIPTION                               | - \$10/- |
| 2. ANNUAL SUBSCRIPTION FOR STUDENTS                  | - \$7/-  |
| 3. ANNUAL SUBSCRIPTION FOR INSTITUTIONS BASED ABROAD | - \$15/- |

IQBAL ACADEMY, PAKISTAN  
116-MCLEOD ROAD, LAHORE, PAKISTAN.

## وفیات

دکتر سید عبدالله، لاہور (متولد ۵ اوریل ۱۹۰۶ م)

دکتر سید محمد عبدالله در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۶۵ هش / ۱۴ اوت ۱۹۸۶ م در لاہور در گذشت. وی در سالیاں ۱۹۵۴-۱۹۶۶ م ریاست دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب لاہور را بعده داشت و در همان دانشکده عربی و فارسی و اردو تدریس می کرد و در این سه زبان (باضافه زبان انگلیسی) آثار گذاشته است. آثار چاپ شده او درباره زبان و ادبیات فارسی بقرار زیر است:

- ۱- ادبیات فارسی میں هندوؤں کا حصہ (بزبان اردو). اوکین اثر جامعی است کہ خدماتِ هندوؤں به زبان و ادبیات فارسی را بیان می کند.
- ۲- تصحیح نذکرہ مردم دیده تأثیف عبدالحکیم حاکم لاہوری (فارسی).
- ۳- خزانہ مخطوطات. فهرست مشروح نسخه های خطی عربی و فارسی و اردو در دانشگاه پنجاب لاہور است که نخست به زبان انگلیسی تأثیف و سپس به اردو ترجمه شده است. فهرست نسخه های فارسی مربوط به تاریخ و شعر در دو مجلد به عنوان زیر چاپ شده است.

A Descriptive Catalogue of the Persian, Urdu and Arabic  
Manuscripts in the Punjab University Library.  
Vol.I,II, Persian Manuscripts.

متن کامل فهرست بزبان اردو در مجلہ اورینتال کالج مکرین "Oriental College Magazine" (مجلہ دانشکده خاور شناسی)، لاہور بچاپ رسیده است.

۴- فارسی زبان و ادب . مجموعه مقالات اردو دربارہ زبان و ادبیات فارسی .

۵- مقدمہ و تحشیہ لطائف نامہ فخری ہروی . (فارسی) .

۶- مکاتیب غالب و غمگین . باهمکاری سید وزیرالحسن عابدی .

۷- تصحیح نوادر الالفاظ تأثیف سراج الدین علی خان آرزو . فرهنگنامہ فارسی به اردو است.

غیر ازین چندین مقالہ دارد کہ دربارہ تاریخ ادبیات مسلمانان هند و

پاکستان در مجلات مربوط به ادبیات فارسی و در "اردو دانش معارف اسلامیہ" نشر شده است.

چند ماه پیش رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از استادان فارسی پاکستان نظر خواهی کرده بود که چگونه میتوانیم زبان فارسی را در پاکستان حفظ و احیا کنیم. نظر مرحوم سید عبدالله چنین بود که امروز دانشجویان در بی یاد گرفتن تکنولوژی و علوم هستند اگر فواید مادی بازیان فارسی وابسته باشد دانش آموزان بار دیگر به این زبان رو می آورند. اگر ایران نیروی انسانی را از خارج بخواهد امکان دارد که این زبان (فارسی) نیز پیشرفت بکند.

اینجا عیناً نظر مرحوم عبدالله بخط خودش چاپ می شود که هم اظهار آن شده باشد و هم یادگاری ازو بماند.

بپاکستان میں فارسی زبان کے تعظیز، احیاء اور ترویج کے لئے آپ  
کی تجویز:

میں حوزہ فارسی کا استاد رکھوں اور فارسی کے فروعوں کو حفظ  
کے لیے سالہاں حید و جید کرتا رکھوں  
لیکن ابصیرت یہ ہے کہ ہمارے فاساز ادارے (کری کولم  
کی طرح) زمانہوں سے زمانہ سائنس اور ملت اسلامی پر زور  
دیتی ہیں اور یہ کوئی کے والدین بھی رنیوی نفع کے  
خیال سے نکنیکھل اور سائنسی صورتیوں کو ترجیح  
دیتے ہیں، زنگریزی دور حکومت میں فارسی / عربی کا سمجھوں  
ان سڑکیوں پر میں لازمی تھا مگر رہب و جھوٹت ہیں رہی  
اگر فارسی سے نفع و ریاستہ ہو جائے تو لوگ پھر اس کی  
طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

اُنگریزی زبان کے فارسی زبان پر چھپ کے مسلمانوں  
 اور ہندوؤں میں لہتے مقبول تھی میاں لیکن کوئی خط و تحریر  
 بھی فارسی میں / نہ تھے مگر اب ع زمانہ دگر گوتہ آئیں نہاد  
 ایران میں اگر بوگور کے لیے روزگار کے سلسلے دیکھو جائیں  
 تو پھر کچھ نہ کچھ ترقی ہو سکتی ہے ۔ فقط

فارسی / ایران کے حوالے سے آب انہی بارے میں جو مزید خاص  
 اطلاعات فراہم کرنا چاہیں ۔

جو کچھ طور بالا میں لکھا جا چکا ہے  
 وہی کافی ہے ۔

اضافہ حرف سیکھنے ہوں کہ کلامیکی  
 فارسی شہری کا دل دادہ میں دو  
 لسان العین حافظ شیرازی سیفی میں  
 تعلق قلبی عروقی رکھنے ہوں ۔

### ۲۳ حافظ محمد یوسف سدیدی - لاہور (متولد ۱۹۲۷ م)

وی یکی از خوشنویسان درجہ اول پاکستان بود کہ ہمه خطوط  
 اسلامی را به غایت مہارت و زیبائی می نوشت و در کتبیہ نویسی نیز  
 استاد بود و روی چندین مسجد و مقبرہ و ساختمان تاریخی پاکستان  
 کتبیہ ہابہ اقلام ثلث و کوفی و نستعلیق بخط آن مرحوم دیدہ می شود  
 از انجمنہ منار پاکستان، قبر سلطان قطب الدین ایسک، مسجد شہداء  
 ، مسجد منصورہ ۔

اینک نمونہ خط وی کہ البتہ ارجاعاً نوشته بود ۔



### ﴿ مولانا محمد اسرائیل - پیشاور ﴾

وی دوست صمیمی ایران و علاقه مند قدیمی به ادبیات فارسی بود و از قدیم با مرکز فرهنگی ایران در پاکستان روابط حسنی داشت و برای مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد نسخه های خطی موجود در کتابخانه های پیشاور و نواحی آن را فهرست برداری کرده بود . خط خوش داشت .

چون او لین شماره دانش به خدمت او فرستادیم در اعلام وصول آن نوشت که اگرچه بعلت بیرونی چشم بسیار کم می بیند اما این سطور را می نویسم و اظهار خوشحالی می کنم که رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین کار مثبت و علمی را آغاز کرده است .  
از درگاه خداوند متعال امرزش این در گذشتگان را می خواهیم .  
روانشان شاد باد !

### ﴿ حسین خدیوچم - تهران ﴾

ایران کی ممتاز محقق اور مترجم سید حسین خدیوچم ۱۷ اکتوبر ۱۹۸۶، کو ۵۹ سال کی عمر میں مشید مقدس میں وفات پا گئے -  
انہوں نے تیس سے زائد کتابوں کا فارسی ترجمہ، تصحیح و تحقیق کی - مگر ان کی عمر کا بیشتر حصہ امام محمد غزالی کی آثار بر تحقیق کرتے ہوئے گذرا - اس ضمن میں احیاء علوم الدین کا آٹھ جلدیں میں ترجمہ کیمیات سعادت، جواہر القرآن کی تصحیح اور ترجمہ رسالہ وجود و سماع قابل ذکر ہے -

وہ "دانش" کے قدر دانوں میں سے تھے اور اس "نو مولود" کی ترقی و کمال کے لیے دعا گو تھے - دانش کے دفتر میں موصول ہونے والا ان کا آخری خط ۲۰ اسفند ۱۳۶۲ ش بمطابق ۱۱ مارچ ۱۹۸۶ء کا لکھا ہوا ہے - ان کی یاد آباد رکھنے اور دانش کے لیے ان کی نیک خواہشات میں سب کوشیک کرنے کے لیے ان کے مذکورہ مکتب کا عکس چھاپا جائیا ہے - خدا مرحوم کی اسلامی عرفان و ادب کے لیے خدمات قبول فرمائی اور ان کی روح کو شاد رکھئے -

بسمه تعالیٰ

پس از سلام فرازیدن میل هزار

پس از مغزیان شاهزاد باتش مکالیم نامه مورخ ع ۱۳۷۵ شمارا ناگزیرم امروز  
پاسخ دهم میرا چند ماهی است که تن فروردین ۱۴۰۱م برادر بیدار از کار باز مانده و مکننی نتوانم  
از تهدید و طایف اصلی و اخلاقی برام . آدرس دستور مشفیعی کدکنی داشت که راه ادبیات  
دانشگاه تهران گروه ادبیات - هـ . برای دکتر زرین کرب نیاز از خواستید پس از  
آدرس چنین هـ . تهران به محبت آباد - ساختمان شماره ۲ طبقه ششم .

در مروره مقاله فویسی مفصل فعلا نمی توانم قولی بدم . چون طبق دستور پژوهش  
محبوبه استراحتم . چه می شود کرد پاییز و زمستانی درست پیگیریان شده ام و ناگزیرم  
بسوزم و سازم تا خدای چاره ساز را خواست و اراده چه پاشرده داشتم .  
مبلغه داشت خوب و آبرو صد هـ خدا کند خضلای جوان از یاری و همکاری باشما  
در پنج دور زندتا این نوزاد فرهنگی به کمال رسید و پیوند معنوی دوکشور داشت و مراد  
هر روز استوار تر شود . امید هـ با چاپ رسائل کوچک و نامه های برجای ماند از بزرگان  
اسلامی و غیر اسلامی که در ایران و مشبه خاره می زیسته اند - زمینه حشنودی پژوهشگران را  
فرام سازید . ذیرا با چاپ خوب «حولانیه» ثابت کردید که لکھایت علمی و معنوی و از  
صلاحیت پرداختن انتشار متون ادب و عرفانی برحوردار است .

با امید دیدار  
حسین خدیوی چشم  
۱۵۶ روز میان

ابوالطہ و مکپنی تیان  
**بِرْلَان** سید فارنی

این بُلْهه تحقیقی علمی درباره قدر و شروع ازیست  
 زندگی علامه استاد اقبال و پیشین فرهنگ و معارف  
 اسلامی، فلسفه، تاریخ، دین، ادب و زبان فارسی  
 می باشد - کیشان: ۲۵ روپیه پانی . ۵۰ ریال ایرانی  
 اقبال و مکپنی تیان: ۱۳۹۸ زیر سکم هاون، وحدت و لاهیو

# اقبال اکادمی پاکستان کا سٹہ مالہی اقبالیات

ایک فکر افذا مجلہ

اقبالیات، فلسفہ، تصوف، تمدن، ادب، اقدار  
تاریخ، اسلامیات، فنون اور ادیان کے موضوعات  
پر اردو اور انگریزی میں مستند ماہرین کے تحقیقی اور تحقیقی مضمون  
شائع کرتا ہے۔

بدل اشتراک پاکستان میں من موصول ڈاک

۲۰ روپے	فی شمارہ (عام افساد کے لیے)
۱۵ روپے	اُردو شمارہ: جنوری، جولائی (طلباء کے لیے)
۶۰ روپے	سالانہ

۱۰ امریکی ڈالر	بیرون پاکستان میں من موصول ڈاک
۱۵ امریکی ڈالر	سالانہ: (عام افساد کے لیے)
۱۵ امریکی ڈالر	انگریزی شمارہ: اپریل، اکتوبر (طلباء کے لیے)

اقبال اکادمی پاکستان، ۱۱۶- میکلوڈ روڈ - لاہور

از انتشارات

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان  
۱۱- مسجد روڈ، ایف ۳/۶ - اسلام آباد

فهرست نسخه‌های خطی فارسی

کتابخانه دانشگاه پنجاب، لاہور

محبیت آذربایجان

تألیف

نیحضر عباسی نوشای



مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تألیف

احقر راهی

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

**فهرست کتابهای فارسی چاپ نگی و مکیاب**

فرت بزرگ

نحوه خاطلی فارسی پاکستان

آمیخت

احمد مژوی

علد هفت

منظومه ها (۱)



مرکز تحقیقات ایران پاکستان

کتابخانه گنجینه بخش

مرکز تحقیقات فارسی ایران پاکستان اسلام آباد

جلد سیم

سیار فوشهی

مرکز تحقیقات فارسی از ر پاکستان

**جهاز شامی فان**

(تایپ شاهیمیل)

تایپ ار ۹۳۸-۹۵۵

محمد رسید

دکتر ارشاد ماضی



مرکز تحقیقات فارسی ایران پاکستان

اسلام آباد

**تایپ زیب فارسی هند پاکستان**

تیموریان بزرگ

از ایران اور کنکر

۹۲۲-۹۳۸

پہش

دکتر آفتاب صدر

نماز فریض جمیعی اسلامی ایران

اسلام آباد

# **DANESR**

Quarterly Journal  
of the  
Cultural Consulate the Islamic Republic of Iran

**Editor :** **S. Arif Naushahi.**

**Honorary Advisor :** **Dr. S. Ali Raza Naqvi.**

Published by:

Cultural Counsellor of the Islamic Republic of Iran  
House No. 25, Street No. 27, F-6/2, Islamabad, Pakistan

# DANESH

Quarterly Journal  
of the  
Cultural Consulate, the Islamic Republic of Iran

A collection of research articles  
with background of Persian language  
and literature and common cultural heritage  
of Iran and Indo-Pak Subcontinent.

